

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصلوة والسلام عليك يا رحمة للعالمين

**الحقائق في الحدائق
المعروف
شرح حدائق بخشش
(جلد نهم)**



شمس المصنفين، فقيه الوقت، فيض ملت، مفسر اعظم پاکستان
حضرت علامہ ابوالصالح مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ام ابی عیالہ: احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کے دوسرے حج کی روئیداد ہے جسے شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا

مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا بریلوی قدس سرہ نے مرتب فرمایا۔ امام احمد رضا قدس سرہ کی وہ نعمتیں جو حج سے متعلق ہیں فقیر نے سیکھا کر کے شرح کی اور اس کا نام رکھا ”روئیداد حج امام احمد رضا“

و ما توفيقي الا بالله العلي العظيم

امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا کہ دوسری بار جب کعبہ معظمہ حاضر ہوا یا کیک جانا ہو گیا اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہ تھا پہلی بار کی حاضری حضرات والدین ماجدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے ہمراہ رکاب تھی اس وقت مجھے تیسواں سال تھا واپسی میں تین دن طوفان شد پر ہاتھا اس کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ لوگوں نے کفن پہن لئے تھے حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کر ان کی تسکین کے لئے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی الہذا حدیث کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا پھر بھی قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معاد دیت یاد آئی۔

حضرت عزت کی طرف رجوع کی اور سرکار رسالت سے مد مانگی الحمد للہ کہ وہ مخالف ہوا کہ تین دن سے بہت چل رہی تھی دو گھنٹی میں موقوف ہو گئی اور جہاز نے نجات پائی۔ ماں کی محبت وہ تین شبانہ روز کی سخت تکلیف یا تھی مکان میں قدم رکھتے ہی پہلا لفظ مجھ سے یہ فرمایا حج فرض اللہ تعالیٰ نے ادا فرمادیا اب میری زندگی بھر دو بارہ ارادہ نہ کرنا۔

ان کا یہ فرمانا مجھے یاد تھا اور ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ حج نفل جائز نہیں یوں خود ادا کرنے سے مجبور تھا۔ یہاں سے نہیں میاں (برادر خورد) اور حامد رضا خاں (خلف اکبر) مuttleقین بارا دہ حج روانہ ہوئے لکھنؤ تک ان لوگوں کو پہنچا کر میں واپس آ گیا لیکن طبیعت میں ایک قسم کا انتشار رہا۔ ایک ہفتہ یہاں رہا طبیعت سخت پر بیشان رہی ایک روز عصر کے وقت زیادہ اضطراب ہوا اور دل وہاں کی حاضری کے لئے زیادہ بے چین ہوا بعد مغرب مولوی نذر احمد صاحب کو اٹھیں بھیجا کہ جا کر بمبئی تک سیکنڈ کلاس ریزو کروالیں کرنا زادوں کا آرام رہے۔ انہوں نے اٹھیں ماشر سے گاڑی مانگی اس نے پوچھا کس ثرین سے ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا اسی شب کے دس بجے والی سے۔ وہ بولا گاڑی نہیں مل سکتی اگر آپ کو

اس سے جانا تھا تو چوبیس گھنٹے پیشتر اطلاع دیتے بیچارے مایوس ہو کر لوٹا چاہتے تھے کہ ایک (نکٹ مکلف) جو قریب رہتا تھا مل گیا۔ اس نے کہا گھبراومت میں چلتا ہوں اور ائمیش ماشر سے جا کر کہا کہ یہ تو مجھ سے کل کہہ گئے تھے میں آپ سے کہنا بھول گیا اس نے ایک سورت یسٹھرو پے پانچ آنے لے کر سکینڈ کلاس کا کمرہ ریزور کر دیا۔ عشاء کی نماز سے اول وقت فارغ ہو گیا شکرم بھی آگئی صرف والدہ ماجدہ سے اجازت لینا باقی رہ گئی جو نہایت اہم مسئلہ تھا اور گویا اس کا یقین تھا کہ وہ اجازت نہ دیں گی کس طرح عرض کروں اور بغیر اجازت والدہ حج نفل کو جانا حرام۔ آخر اندر مکان میں گیا دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرماتی ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر کھدیدیا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے حج کی اجازت دیجئے پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا خدا حافظ۔

یہ انہیں دعاوں کا اثر تھا میں ائے پاؤں باہر آیا اور فور اسوار ہو کر ائمیش پہنچا بعد واپسی کے معلوم ہوا کہ میں ائمیش تک بھی نہ پہنچا ہوں گا انہوں نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی اسے بلا لوگر میں جا چکا تھا کون بلا تا۔ چلتے وقت جس لگن میں میں نے وضو کیا تھا اس کا پانی میری واپسی تک نہ چینکنے دیا کہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ بریلی کے ائمیش سے میں نے ایک تارا پنی روائی کا بیکمی روانہ کیا وہاں سب نے یہ خیال کیا کہ شاید حسن میاں (اعلیٰ حضرت کے بھنلے بھائی) تشریف لارہے ہیں اس واسطے کہ ان کا سال آئندہ میں ارادہ تھا میرا کسی کو گمان نہ تھا غرض دن کے دن تک سب کو تذبذب رہا۔ ادھر مجھے راستہ میں ایک دن کی دیر ہو گئی کہ آگرہ پر میل نکل گیا اور ہماری گاڑی نے پینجھر کا انتظار کیا۔ مولوی نذریاحمد صاحب نے ائمیش ماشر سے پوچھا کہ ہماری گاڑی کٹ کر کیوں جدا کر لی؟ کہا میل ریز رونہ تھا آپ کو پینجھر میں جانا ہو گا یہاں تک کہ وہ دن آگیا جس روز حجاج بیکمی کے قرنطینہ میں داخل ہونے والے تھے اور میں اس وقت تک نہ پہنچ سکا۔

اب سخت مشکل کا سامنا تھا کہ ہمارے لوگ قرنطینہ میں داخل ہو جائیں گے اور میں رہ گیا اب جانا کیونکر ہو گا یہ دن پیشنبہ کا ہے تارا آچکا تھا کہ پیشنبہ کو بھپارا ہو کر لوگ قرنطینہ میں داخل ہو جائیں گاڑی کٹ جانے نے یہ تاخیر کی کہ میں جمعہ کے دن صحیح آٹھ بجے پہنچا ائمیش پر دیکھا بیکمی کے احباب کا ہجوم ہے حاجی قاسم وغیرہ گاریاں لئے موجود ہیں۔

سلام و مصافحہ کے بعد پہلا لفظ جو انہوں نے کہا یہ تھا شہر کونہ چلنے بلکہ سید ہے قرنطینہ چلنے ابھی آپ کے لوگ داخل نہیں ہوئے ہیں۔

میں شکرا الہی بجا لایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ داخل قرنطینہ ہوا۔ یہ حدیث کی انہیں دعاوں کا اثر تھا کہ گئی ہوئی مراد عطا فرمائی میں نے واقعہ پوچھا وہاں کے لوگوں نے کہا عجب ہے اور سخت عجب ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پیشنبہ کو روزِ مسعود پر

ڈاکٹر آیا اور آدھے لوگوں کو بھپارا دیا کہ دفعتہ اسے سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی اور کہا کہ باقی کا بھپارا کل ہو گا یوں تمہارے لوگ باقی رہ گئے اب ایک اور وقت پیدا ہوئی کہ اس جہاز کا نکٹ بالکل تقسیم ہو چکا تھا جس میں ہمارے لوگ جانے والے تھے مجبوری دوسرا جہاز کا نکٹ خریدا اور وہ بھی تیرے درجے کا ملا جس کی حکمت آگے ظاہر ہو گی اور حدیث کی دعائی پڑھیں کہ سرکار مجھے اپنوں کا ساتھ عطا فرمائیں ان سے چھوٹ کر میں تنہا کیونکر حاضر ہوں گا۔ تلاش کی گئی کہ اس جہاز میں کوئی صاحب ایسے ہیں جو اسکیلے جانے والے ہوں جنہیں یہ اور وہ دونوں جہاز برابر ہوں مولیٰ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بڑے میاں ہمارے ضلع بریلی مقام بھیڑی کے ساکن مل گئے جنہوں نے بخوبی نکٹ بدل لیا وہ اس جہاز میں گئے اور میں بفضلہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں رہا۔

سرکار نے پہلا نکٹ تیرے درجے کا اسی لئے دلایا تھا کہ وہ بڑے میاں ملنے والے تھے جن کا نکٹ تیرے ہی درجے کا تھا ان سے تبدیلی میں مالی نقصان نہ ہو بعد قرآنیہ اس جہاز پر سوار پر سو روپے داخل کر کے اول درجے کا نکٹ تبدیل کرالیا۔ جب عدن کے قریب جہاز پہنچا میں نمازِ عصر پڑھ رہا تھا ایک عربی صاحب کی آواز میرے کان میں پہنچی کہ سمت قبلہ یہیں ہے میں نے کچھ خیال نہ کیا اس لئے کہ میں موامرہ ہندیہ سے عدن و کامران کی سمت قبلہ نکال چکا تھا۔ وہ اتنی دریکہ میں نے نماز پڑھی وظیفہ پڑھ رہے تھے جب میں فارغ ہوا تو ان سے پوچھا اُس وقت بتائیے سمت قبلہ کس طرف ہے اور پانچ منٹ پہلے کس طرف تھا اور حساب لگا کہ سمجھایا کہ اس وقت سمت قبلہ ہی پر نماز ہوئی جس کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا جب کامران آیا تو قرآنیہ میں داخل ہوئے وہاں دس روز ٹھہرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان ترکی کارکنوں کو جزاۓ خیر دے ججاج کو ایسا آرام دیا کہ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سا کرج کا وقت قریب ہے ورنہ کچھ دن بیمار رہتے اور یہاں کے آرام کا لطف اٹھاتے۔ بمبئی کی مجال تھی کہ کوئی اس احاطہ سے باہر قدم رکھتا احاطہ کے اندر ہر بات کی روک ٹوک تھی، ہندو سپاہی قصد اجاج کو نگ کرتے تھے۔ یہاں میں نے سنا کہ کامران سے کوئی ایک میل فاصلہ پر کسی بزرگ کا مزار ہے میں نے اور میرے ساتھیوں نے حاضری کا رادہ کیا۔ ترکی ڈاکٹر سے پوچھا کیشاہ پیشانی اجازت دی اور کہا آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے؟ میں نے کہا دس بارہ ان سب کو بھی اجازت دی اور ہم زیارت سے فارغ ہو کر آئے جہاز اور کامران میں آفریا روزانہ میرے بیانات ہوتے جس میں اکثر مناسک حج کی تعلیم ہوتی اور وہ جو ہمیشہ میرے بیان کا مقصد اعظم رہتا ہے یعنی تقطیم شان حضور اکرم ﷺ ایک بہت بڑا ریس بھی جہاز میں تھا شریک و عنظ ہوتا مسائل سا کرتا مگر تقطیم شان اقدس کے ذکر کے وقت اس کے چہرہ پر بیانات کی جگہ کدورت ہوتی۔ میں سمجھا وہابی ہے دریافت کرنے سے معلوم ہوا

کے گنگوہی صاحب کا مرید ہے اس روز میں نے روئے تھن روہا بیہ و گنگوہی کی طرف پھیرا جبرا قہر استار ہا مگر دوسرے دن سے بیان میں نہ آیا میں نے حمد کی کہ جلسہ پاک ہوا۔

اب یہاں کامران میں نو دن ہو چکے کل جہاز پر جانا ہے دفعہ رات کو میرے سب ساتھیوں کو دردشکم و اسہال عارض ہوا مجھے درتو نہ تھا مگر پانچ بار اجابت کو جانا ہوا دن چڑھ گیا اور ڈاکٹر کیا نے کا وقت ہوا۔ باہر تک مردا اور اندر عورتوں کو ترکیہ عورت روزانہ آ کر دیکھا کرتے۔ میرے بھائی نئے میاں کو اندیشہ ہوا اور عزم کر لیا کہ اپنی حالتوں کو ڈاکٹر سے کہہ دو مجھ سے دریافت کیا میں نے کہا اگر یہاں سمجھ کر رونک لئے گئے اور جج کا وقت قریب ہے معاذ اللہ وقت پر نہ پہنچ سکے تو کتنا خسارہ ہو گا کہا اب ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی آتے ہوں گے اگر انہیں اطلاع ہوتی تو ہمارا نہ کہنا خفایاں نہ ٹھہرے گا۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اپنے حکیم سے کہہ لوں۔ مکان سے باہر جنگل میں آیا اور حدیث کی دعا کیں پڑھیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد کی کہ دفعہ سامنے سے حضرت سید شاہ غلام جیلانی صاحب سجادہ نشین مارہڑہ شریف اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور بمبی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا سامنے سے تشریف لائے ان کی تشریف آوری فال حسن تھی میں نے ان سے بھی دعا کو کہا۔ انہوں نے بھی دعا فرمائی مجھے مکان سے باہر آئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے اب جو مکان میں جا کر دیکھا بحمد اللہ سب کو ایسا تندرست پایا کہ گویا مرض ہی نہ تھا درد وغیرہ کیسا اس کا ضعف بھی نہ رہا۔ سب ڈھائی تین میل پیادہ چل کر سمندر کے کنارے پہنچ جدہ شریف میں جب جہاز پہنچا جائی کی بے حد کثرت اور جانے کا صرف ایک راستہ جو دو طرف میٹوں سے بہت دور تک محدود۔ بھلا ایسی حالت میں کس طرح گذر ہو زنانی سواریاں ساتھ پانچ گھنٹے اسی انتظار میں گذر گئے کہ ذرا بھوم کم ہو تو سواریوں کو لے چلیں لیکن اس وقت سلسلہ منقطع ہونا تھا نہ ہوا یہاں تک کہ دو پہر کا وقت قریب ہو گیا۔ دھوپ اور بھوک اور پیاس سب با تیس جمع تھیں کہ نئے میاں اور سب لوگ نہایت پریشان جب بہت دیر ہو گئی تو نئے اور حامد رضا خاں نے مجھے آ کر کہا یہاں آخر کب تک بھوکے پیاسے دھوپ میں کھڑے رہیں گے میں نے کہا کہ تمہیں جلدی ہے تو جاؤ میں تاو قتیکہ بھیز کم نہ ہو زنانی سواریوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ اب کس کی مجال تھی جو کچھ کہتا مجبوراً خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک عربی صاحب جن کو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا میرے پاس تشریف لائے اور بعد سلام علیک پہلا لقطہ یہ فرمایا

کیا سبب ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہوں میں نے عرض کیا پریشانی ظاہر ہے ہمارے ساتھ مستورات ہیں اور مردوں کا یہ کشیر بھوم ہمیں پانچ گھنٹے یہیں کھڑے ہو گئے فرمایا اپنے مردوں کا حلقة بنایا کہ عورتوں کو درمیان میں لے لو اور

میرے پیچے پیچھے چلے آ و غرض حلقہ میں عورتوں کو لے کر ان عربی صاحب کے پیچھے ہو لئے ہم نے دیکھا کہ راستہ بھر
ہمارے شانے سے بھی کسی غیر شخص کا شانہ نہیں لگا جب رستہ طے ہوا فوراً وہ عربی صاحب نظر وں سے غائب ہو گئے۔

جده پہنچتے ہی مجھے فوراً بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے مجازات پلملم سے بھر
اللہ تعالیٰ احرام بندھ چکا تھا۔ اس سردی میں رضائی گردن تک اوپر سے ڈال لیتا کہ احرام میں چہرہ میں چھپانا منع ہے
سو جاتا آنکھ کھلتی تو بحمد اللہ رضائی گردن سے اصلاح نہ بڑھتی ہوتی۔ تین روز جدہ میں رہنا ہوا اور بخار ترقی پر ہے آج چل کر
جدہ کے کھلے میدان میں رات بسر کرنی ہو گئی بخار میں کیا حالت ہو گی۔ سرکار اقدس ﷺ سے عرض کی بحمد اللہ بخار معا
جا تارہ اور تیر ہویں تک عود نہ کیا جب بفضلہ تعالیٰ تمام مناسک حج سے فارغ ہو لئے تیر ہویں تاریخ بخار نے عود کیا میں
نے کہا اب آیا سمجھئے ہمارا کام رب العزت نے پورا کر دیا۔

بعد فراغ مناسک حج کتب خانہ حرم محترم کی حاضری کا شغل رہا پہلے روز جو حاضر ہوا حامد رضا خان ساتھ تھے۔
محافظ کتب حرم ایک وجہہ و میل عالم نبیل مولانا سید اسماعیل تھے یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا یہ حضرت مثل دیگر اکابر مکہ
کرمہ اس فقیر سے غائبانہ خلوص تام رکھتے تھے جس کا سبب میرافتؤی مسکی ہے ”فَسَاوَى الْحَرَمِينَ لِرَجْفَنَةِ نَدْوَى^۱
الْمَيْنَ“ تھا کہ سات برس پہلے ۱۲۶۱ھ میں روندوہ کے لئے اٹھائیں سوال و جواب پر مشتمل جسے میں نے میں گھلنے سے کم
میں لکھا تھا اور بذریعہ بعض حاج خادمان دین ان حضرات کے حضور پیش ہوا اور انہوں نے اپنی گراں بہا تقریبات سے
اسے مزین فرمایا اور فقیر کے بے شمار اعلیٰ اعلیٰ درجے کے کلمات و دعا و شاء کا شرف دیا اور مع ترجمہ ایک بہسٹ کتاب ہو کر
بسمی اللہ ۱۳۱۴ھ میں طبع ہو کر شائع ہو چکی تھی۔ اس وقت مولا عزوجل نے اس ذرہ بے مقدار کی کمال محبت و وقت ان جلیل
قلوب میں ڈال دی تھی مگر ملاقات ظاہری نہ تھی۔ حضرت مولانا موصوف سے کچھ کتابیں مطالعہ کے لئے نکلوا کیں حاضر
ہیں میں سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوال ری کسی مولانا نے فرمایا یہاں کے علماء نے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ حامد
رضا خان سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی مجھ سے استفسار ہوا میں نے کہا خلافِ مذہب ہے۔ مولانا سید صاحب نے
ایک تداول کتاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کو علیہ الفتویٰ لکھا ہے میں نے کہا ممکن ہے کہ وایا جواز ہو مگر علیہ الفتویٰ ہرگز
نہ ہو گا۔ وہ کتاب لے آئے مسئلہ نکلا اور اسی صورت سے نکلا جو فقیر نے گذارش کی تھی یعنی اس میں علیہ الفتویٰ کا لفظ نہ تھا
حضرت مولانا نے حامد رضا خان سے کان میں جھک کر پوچھا یہ کون ہے اور حامد رضا خان کو بھی نہ جانتے تھے مگر اس وقت
گفتگو انہیں سے ہو رہی تھی لہذا ان سے پوچھا انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولانا وہاں سے اٹھ کر پیتا بانہ

دوزتے ہوئے آکر فقیر سے لپٹ گئے پھر تو بحمد اللہ تعالیٰ دوار نے کامل ترقی کی اس بارہ کار حرم محترم میں میری حاضری بے اپنے ارادے کے جس غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں پر ہوئی اس کا کچھ بیان اوپر ہو چکا ہے وہ حکمت الہی یہاں آکر کھلی۔ سننے میں آیا کہ وہابیہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں جن میں خلیل احمد انیشھوی اور بعض وزراء ریاست و دیگر اہل شریعت بھی ہیں حضرت شریف تک رسائی پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب چھپتھا ہے اور اس کے متعلق کچھ سوال علماء مکہ حضرت مولانا شیخ کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔

میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا حضرت مولانا مولوی وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے عزیزی مولوی عبدالاحد بھی ہراہ تھے۔ میں نے بعد سلام و مصافحہ مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھنٹے تک اسے آیات و احادیث و اقوال آئمہ سے ثابت کیا اور مختلفین جو شبہات کیا کرتے ہیں ان کا رد کیا۔ اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف حضن سکوت کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر میرامند دیکھتے رہے۔ جب میں نے تقریر ختم کی چپکے سے اٹھتے ہوئے قریب الماری رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ کا لالاے جس پر مولوی سلامت اللہ صاحب را مپوری کے رسالہ اعلام الاذ کیا کے اس قول کے متعلق کہ حضور اکرم ﷺ کو **”هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“** کہا چند سوال تھے اور جواب کی چار سطریں ناتمام اٹھالائے مجھے دکھایا اور فرمایا تیرا آنا اللہ کی رحمت تھا ورنہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتویٰ یہاں سے جا چلتا۔ میں حمد الہی بجا لایا اور فرد و گاہ پر واپس آیا۔ مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور حج کا ہنگامہ اور جائے قیام نامعلوم آخر خیال فرمایا کہ ضرور کتب خانہ میں آیا کرتا ہوگا۔ ۲۵ ذی الحجه ۱۴۳۳ھ کی تاریخ ہے بعد نمازِ عصر میں کتب خانہ کے زینے پر چڑھ رہا ہوں پیچھے سے ایک آہٹ معلوم ہوئی دیکھا تو حضرت مولانا شیخ صالح کمال ہیں بعد سلام و مصافحہ دفتر کتب خانہ میں جا کر بیٹھے۔ وہاں حضرت مولانا سید اسماعیل اور ان کے نوجوان سعید رشید بھائی، سید مصطفیٰ اور ان کے والد ماجد سید خلیل اور بعض حضرات بھی (کاس وقت یاد نہیں) تشریف فرمائیں۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جیب سے ایک پر چڑھ کالا جس پر علم غیب کے متعلق پانچ سوال تھے (یہ وہی سوال ہیں جن کا جواب مولانا نے شروع کیا تھا ورنہ تقریر فقیر کے بعد چاک فرمادیا) مجھ سے فرمایا یہ سوال وہابیہ نے حضرت سیدنا کے ذریعہ سے پیش کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے (سیدنا وہاں شریف کہ کہتے ہیں اس وقت شریف علی پاشا تھے) میں نے مولانا سید مصطفیٰ سے گذر اش کی کلم دوات دیجئے حضرت مولانا شیخ کمال و مولانا سید اسماعیل و مولانا سید خلیل سب اکابر تشریف فرماتھے اور ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا فوری جواب نہیں چاہتے

بلکہ ایسا جواب ہو کہ خبیثوں کے دانت کھٹے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اس کے لئے قدرے مهلت چاہیے۔ دو گھنٹی دن باقی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا کل سر شنبہ پر سوں چہارشنبہ ہے ان دو روز میں ہو کر شیخ شنبہ کو مجھے مل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دوں۔

میں نے اپنے رب عز و جل کی عنایت اور اپنے نبی کریم ﷺ کی امانت پر بھروسہ کر کے وعدہ کر لیا اور شانِ الہی کے دوسرے ہی دن سے بخار نے پھر عود کیا اسی حالت تپ میں رسالہ ﷺ کو تصنیف کرتا اور حامد رضا خاں تمییض کرتے اس کا شہرہ مکہ معظمہ میں ہوا کہ وہابیہ نے فلاں کی طرف سوال متوجہ کیا ہے اور وہ جواب لکھ رہا ہے۔ میں نے اس رسالہ میں غیوب خمسہ کی بحث نہ چھینگری تھی کہ سائلوں کے سوال میں نہ تھی مجھے بخار کی حالت بکمال تعمیل قصد تعمیل آج ہی کہ میں لکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ الخطباء بکیر العلماء، مولانا شیخ احمد ابوالخیر مرداد کا پیام آیا کہ میں پاؤں سے مغذو رہوں اور تیرا رسالہ سننا چاہتا ہوں۔ میں اسی حالت میں جتنے اور اوقات لکھے گئے تھے لے کر حاضر ہوا رسالہ کی قسم اول ختم ہو چکی تھی جس میں اپنے مسلک کا ثبوت ہے۔ قسم دوم لکھی جا رہی تھی جس میں وہابیہ کا رد اور ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ حضرت شیخ الخطباء نے اول تا آخر سن کر فرمایا اس میں علم خمس کی بحث نہ آئی میں نے عرض کی کہ سوال میں نہ تھی فرمایا میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو۔ میں نے قبول کیا خصت ہوتے وقت ان کے زانوئے مبارک کو ہاتھ لگایا حضرت موصوف نے ہاں فضل و کمال و ہاں کبر سال کے عمر شریف ستر برس سے متجاوز تھی یہ لفظ فرمائے کہ

انا اقبل ارجلكم انا اقبل العالكم

میں تمہارے قدموں کو بوسہ دوں میں تمہارے جو توں کو بوسہ دوں

یہ میرے حبیب کریم ﷺ کی رحمت کے ایسے اکابر کے قلوب میں اس بے وقعت کی یہ وقعت میں واپس آیا اور شب ہی میں بحث خمس کو بڑھایا۔ اب دوسرا دن چہارشنبہ کا ہے صحیح کی نماز پڑھ کر حرم شریف سے آتا ہوں کہ مولانا سید عبدالحی بن مولانا سید عبدالکبیر محدث ملک مغرب (اس وقت ان کی چالیس کتابیں علوم حدیثیہ و دینیہ میں مصر میں چھپ چکی تھیں) ان کا خادم پیام لایا کہ مولانا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ وعدے میں آج ہی کا دن باقی ہے اور بھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے عذر کر بھیجا کر آج کی معافی دیں کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ فوراً خادم واپس آیا کہ میں آج ہی مدینہ طیبہ جاتا ہوں، تبریز ہو چکی ہے یعنی قافلے کے اونٹ بیرون شہر جمع ہو گئے ہیں ظہر پڑھ کر سوار ہو جاؤ نگا۔ اب میں مجبور ہوا اور مولانا کو تشریف آوری کی اجازت دی وہ تشریف لائے اور علوم حدیث کی اجازت میں فقیر سے طلب فرمائیں اور لکھوا کئیں

اور علمی مذاکرات ہوتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوئی۔ وہاں زوال ہوتے ہی معاً اذان ہو جاتی ہے اور وہ نماز میں حاضر ہوئے بعد نمازوہ عازم مدینہ طیبہ ہوئے اور میں فرودگاہ پر آیا۔

آج کے دن کا بڑا حصہ یوں بالکل خالی گیا اور بخار ساتھ ہے بقیہ دن میں اور بعد عشاء فضل الہی اور عنایت رسالت پناہی ﷺ نے کتاب کی تحریک تیپیش سب پوری کرادی ”الدولۃ الامکیۃ بالمادة الغیریۃ“ اس کا تاریخی نام ہوا اور پیش شنبہ کی صبح ہی کو حضرت مولانا شیخ صالح کمال کی خدمت میں پہنچا دی۔ مولانا نے دن میں اسے کامل طور پر مطالعہ کیا اور شام کو شریف صاحب کے یہاں لے کر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نمازوہ ہاں شروع وقت پر ہو جاتی ہے اس کے بعد سے نصف شب تک کوئی گھریوں میں چھبوخت ہیں شریف علی پاشا کا دربار ہوتا تھا حضرت مولانا نے دربار میں کتاب پیش کی اور اعلیٰ الاعلان فرمایا اس شخص نے وہ علم ظاہر کیا جس کے انوار پچھے اٹھے اور جو ہمارے خواب میں بھی نہ تھا۔ حضرت شریف نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا دربار میں دو وہابی بیٹھے تھے ایک احمد فکیہ کھلا تا دوسرا عبد الرحمن اسکوبی۔ انہوں نے مقدمہ کتاب کی آمد ہی سن کر سمجھ لیا کہ یہ کتاب رنگ بدل دی گی شریف ذی علم ہیں مسئلہ ان پر منکشف ہو جائے گا لہذا چاہا کہ سننے نہ دیں بحث میں الجھا کرو قوت گزار دیں۔ کتاب پر کچھ اعتراض کیا حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جواب دیا آگے بڑھے انہوں نے پھر ایک مہم اعتراض کیا حضرت مولانا نے جواب دیا اور فرمایا کتاب سن لیجئے پوری کتاب سننے سے پہلے اعتراض بے قاعدہ ہے ممکن ہے کہ آپ کے شکوہ کا جواب کتاب ہی میں آئے اور نہ ہتو میں جواب کا ذمہ دار ہوں اور مجھ سے نہ ہو سکا تو مصنف موجود ہے۔ یہ فرمایا کہ آگے پڑھنا شروع کیا کچھ دور پنجھے تھے انہیں الجھانا مقصود تھا پھر متعرض ہوئے۔ اب حضرت مولانا نے حضرت شریف سے کہا کہ سیدنا حضرت کا حکم ہے کہ میں کتاب پڑھ کر سناؤں اور یہ جا بے جا لجھتے ہیں حکم ہتو ان کے اعتراضوں کا جواب دوں یا حکم ہتو کتاب پڑھ کر سناؤں۔ شریف صاحب نے فرمایا ”اقراء“ آپ پڑھئے اب ان کی ہاں کوون نہ کر سکتا تھا متعرضوں کا منہ مارا گیا اور مولانا کتاب سناتے رہے۔ اس کے دلائل قاہرہ سن کر مولانا شریف نے باؤز بلند فرمایا ”اللہ یعطی وہ لا یمتعون“ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب ﷺ کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ (وہابیہ) منع کرتے ہیں یہاں تک کہ نصف شب تک نصف کتاب سنائی اب دربار برخاست ہونے کا وقت آگیا۔ شریف صاحب نے حضرت مولانا سے فرمایا کہ یہاں نشانی رکھ دو کتاب بغل میں لے کر بالاخانہ پر آرام کے لئے تشریف لے گئے وہ کتاب آج تک انہیں کے پاس ہے اصل سے متعدد نقلیں مکہ معظمه کے علماء کرام نے لیں اور تمام مکہ معظمه میں کتاب کا شہرہ ہوا وہابیہ پر اوس پڑگئی بفضلہ تعالیٰ سب لوہے ٹھنڈے ہو گئے گلی کوچ

میں مکہ معظمه کے لڑکے ان کا تمثیر کرتے کہ اب کچھ نہیں کہتے اب وہ جوش کیا ہوئے، اب وہ مصطفیٰ ﷺ کے علوم غائب
ماننے والوں کو کافر کہنا کدھر گیا؟ تمہارا کفر و شرک تمہی پر پلٹا وہابیہ کہتے ہیں اس شخص نے کتاب میں منطقی تقریر یہ بھر کر
شریف پر جادو کر دیا مولانا عز وجل کا فضل حبیب اکرم ﷺ کا کرم کہ علماء کرام نے کتاب پر تقریبیں لکھنا شروع کیں وہابیہ
کا دل جلتا اور بس نہ چلتا آخر اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح فریب کر کے تقریبات تلف کر دی جائیں ایک جگہ جمع ہوئے
اور حضرت مولانا شیخ ابوالخیر مرداد سے عرض کی کہ ہم بھی کتاب پر تقریبیں لکھنا چاہتے ہیں کتاب ہمیں منگوادیجھے وہ
سید ہے مقدس بزرگ ان کے فریبوں کو کیا جائیں اپنے صاحبزادے مولانا عبداللہ مرداد کو میرے پاس بھیجا کہ یہ صاحب
مسجد حرام کے امام ہیں اور اسی زمانے میں فقیر کے ہاتھ پر بیعت فرمائے چکے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالخیر کا منگانا اور مولانا
عبداللہ مرداد کا لینے کو آنا شہبہ کی کوئی وجہ نہ ہوتی مگر مولی عز وجل کی رحمت میں اس وقت کتب خانہ حرم شریف میں تھا
حضرت مولانا اسماعیل کو اللہ عز وجل جنات عالیہ میں حضور رحمت عالم ﷺ کی رفاقت عطا فرمائے قبل اس کے کہ میں کچھ
کھوں نہایت ترشی اور جلالی سیادت سے فرمایا کتاب ہرگز نہ دی جائے گی جو تقریبیں لکھنی ہوں لکھ کر بھیج دو۔ میں نے
گزارش بھی کی کہ حضرت مولانا ابوالخیر منگاتے ہیں اور ان کے صاحبزادے لینے آتے ہیں اور ان کا تعلق فقیر سے ہے
آپ کو معلوم ہے فرمایا جو لوگ وہاں جمع ہیں ان کو میں جانتا ہوں وہ منافقین ہیں۔ مولانا ابوالخیر کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے
یوں اس عالم نبیل سید جلیل کی برکت نے کتاب بحمد اللہ محفوظ رکھی و اللہ الحمد۔ جب وہابیہ کا یہ مکر بھی نہ چلا اور مولانا شریف
کے یہاں سے بحمدہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ کالا ہوا ایک ناخواندہ جاہل کے نائب الحرام کہلاتا اسے کسی طرح اپنے موافق کیا احمد
راتب پاشا اس زمانہ میں گورنر مکہ معظمه تھے آدمی ناخواندہ مگر دیندار ہر روز بعد عصر طواف کرتے۔ خیال کیا کہ شریف ذی
علم تھے کتاب سن کر معتقد ہو گئے یہ بے پڑھافوجی آدمی ہمارے بھر کانے سے بھڑک جائیگا۔

ایک روز یہ طواف سے فارغ ہوئے ہیں کے نائب الحرم نے ان سے گزارش کی کہ ایک ہندی عالم نے ہندوستان
میں بہت لوگوں کے عقیدے بگاڑ دیئے ہیں اور اب اہل مکہ کے عقیدے خراب کرنے آیا ہے اور ساتھ ہی دل میں سوچا
کہ یہ کیونکر جنمے گی کہ ایک ہندی مکیوں کے عقیدے بگاڑ دے؟ لہذا مجبوراً اس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ اور اکابر علماء مکہ مثل
شیخ العلماء سید محمد سعید باصیل و مولانا شیخ صالح کمال و مولانا ابوالخیر مرداد اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ مولی تعالیٰ کی شان
کہ یہ واقعی بات جو اس نے مجبوراً کہی اس پر اٹھی پڑی۔ باشانے بکمال غصب ایک چپت اس کی گردان پر جمائی اور کہا
یا خبیث ابن الغبیث یا كلب ابن الكلب اذا كان هؤلاء معه فهو يفسد ام يصلح

اے خبیث ابن خبیث اے کتے کے بچے جب یہ اکابر اس کے ساتھ ہیں تو وہ خرابی ڈالے گا یا اصلاح کریگا۔

اس روز سے مولانا سید اسماعیل وغیرہ اسے نائب الحرام کہتے اور احمد فگیہ کو سفیہ اور ایک اور مخالف کو مفوم مولانا شریف کا دربار مہذب دربار تھا۔ وہاں وہا بیہ کو مہذب ذلت پنچی یہ ایک جنگی فوجی ترک کا سامنا تھا اسی طریقے کی ذلت پائی۔ ”الدولۃ المکہیۃ“ کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کچھ پہلے سے بفضلہ تعالیٰ حسام الحرمین کی کاروانی جاری کی اکابر نے جو عالیشان تقریظات اس پر لکھیں آپ حضرات کے پیش نظر ہیں۔ ابتدا ہی میں یہ توئی حضرت مولانا شیخ صالح کمال کے پاس تقریظ کو گیا تھا۔ اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے کتاب نانے کے ضمن میں حضرت شریف سے خلیل احمد کے عقائد ضلالہ اور اس کی کتاب برائیں قاطعہ کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ انیٹھوی صاحب کو خبر ہوئی مولانا کے پاس کچھ اشرفیاں نذر انہیں کر پہنچے اور عرض کی کہ حضرت مجھ پر کیوں ناراض ہیں۔ فرمایا کیا تم خلیل احمد ہو کہا ہاں۔ مولانا نے فرمایا تجھ پر افسوس تو نے برائیں قاطعہ میں وہ شنیع باتیں کیے لکھیں ہیں میں تو تجھے زندقیں لکھ چکا ہوں (اس سے پہلے مولانا غلام دیگر قصوری مرحوم کتاب ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل“ لکھ کر علمائے مکہ سے تقریظیں لے چکے تھے اس پر مولانا شیخ صالح کمال کی بھی تقریظ ہے اور اس میں انیٹھوی صاحب اور ان کے استاد گنگوہی صاحب کو زندقیں لکھا ہے) انیٹھوی صاحب نے کہا حضرت جو باتیں میری طرف نسبت کی گئی ہیں افتراء ہیں میری کتاب میں نہیں ہیں۔ فرمایا تمہاری کتاب برائیں قاطعہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ انیٹھوی نے کہا حضرت کیا کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے۔ مولانا نے چاہا کسی مترجم کو بلا کمیں اور برائیں قاطعہ انیٹھوی صاحب کو دکھا کر ان کلمات کا اقرار کر کر توبہ لیں مگر انیٹھوی صاحب رات ہی میں جدہ کو فرار ہو گئے۔ حضرت مولانا شیخ کمال نے حضرت مولانا سید اسماعیل کو اس واقعہ کی اطلاع کا خط بھیجا اور انہوں نے بعد نہ اپنے خط **☆** میں رکھ کر مجھے بھیج دیا اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔

صحح کو حضرت مولانا شیخ صالح کما فقیر کے پاس تشریف لائے اور خود یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا میں نے سنا کہ وہ

☆ انیٹھوی جی کا نامی نامہ:-

صاحب الفضیلۃ والاخلاق والمحبة الجميلۃ حضرة السيد اسماعیل آشمی حافظ الكتب حضرت عدنان قبل تاریخہ
رجل من اهل الهند يقال له خلیل احمد مع بعض علماء الهند المجاورین بمکہ يستعطف خاطرنا علیه لانه قد بلغه ای
شدید الغیظ علیہ وانا لا عرفه شخصا فقال یا سید بلغنى انکم واجدون علی وذلک بسبب انى ذكرت ماقعه می فی
البراہین القاطعہ لدی حضرت الامیر حفظہ اللہ فقلت له لعلک خلیل احمد الانیٹھوی فقال نعم فقلت له ویحک کیف
تقول فی البراهین قاطعہ تلک المقالات الشیعہ وتجوز لکذب علی اللہ جل جلالہ کیف لا اغناظ علیک ولقد کہت
علیها بانک رجل زندیق (بقیہ حاشیہ لگے صفحہ پر)

رات ہی میں بھاگ گیا۔ میں نے کہا مولا نا آپ نے بھگا دیا فرمایا میں نے میں نے کہا ہاں آپ نے۔ فرمایا کیونکر میں نے عرض کیا جب اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے کہا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسی نے اسے بھگایا۔ آپ کو یہ فرمانا تھا کہ جو رسول اللہ ﷺ کی توبہ ہیں کرے اس کی توبہ قبول نہیں۔ فرمایا واللہ یہ مجھ سے رہ گئی میں نے کہا تو آپ ہی نے بھگایا۔ زمانہ قیام میں علماء کرام مکہ معظلم نے بکثرت فقیر کی دعوییں بڑے اہتمام سے کیں ہر دعوت میں علماء کا مجمع ہوتا، مذاکرات علمیہ رہتے، شیخ عبدال قادر کردی مولانا شیخ صالح کمال کے شاگرد

(بیہی حاشیہ) و کیف تعزرا و نسکروا ہی قد طبعت و شاعت عنک فقال يا سیدی هی لی ولكن ليس فيها تجویز الکذب
علی لله ولا ن کان فيها و راجع عما فيها مما یخالف اهل السنة والجماعۃ فقلت له ان الله یحب التائین و
البراهین موجودة وساخرج لک منها هذا الذى انکرته وتجاسرتہ به علی الله جل شانہ فصار یتصال ویعتذر ویقول له
کان فهو مکذوب علی وانا رجل مسلم موحد من اهل السنة والجماعۃ ما قالت فيها هذا ولا غيره مما یخالف من هب
اهل السنة والجماعۃ فعجبت منه کیف ینکر ما هو مطبوع فی رسالۃ البراهین القاطعة المطبوعة بلسان الهند وظہر لی
انہ انما قال ذلک تفیہ کانهم مثل الرافضہ یرون السقیہ واجہہ واردۃ ان احضرها واحضر من یفهم ذلک اللسان من
مجیہ عدمنا هرب الی جملة ولا حول ولا قوۃ الا بالله اجبنا اعلامکم بذالک ودمتم (محمد صالح کمال، ۲۸ ذی الحجه ۱۴۲۳ھ)
بزرگی اور اخلاق اور محبت جیلہ والے حضرت سید اسماعیل آندری حافظ الکتب آیا ہمارے پاس آج سے پہلے ایک شخص ہندی جس کو خلیل احمد کہا جاتا
ہے ہمارا ہی میں بعض علمائے ہند کی جو مکہ میں مجاور ہیں مہربان کرنا چاہتا تھا ہمارے دل کو اپنے اوپر اس لئے کہا سے خبر پہنچی کہ میں سخت ناراض ہوں
اس پر پس کہا اے میرے سردار مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ مجھ پر ناراض ہیں۔ یہ آنا اس سبب سے تھا کہ جو کچھ اس سے براہین قاطعہ میں واقع ہوا تھا
اس کو میں نے حضرت امیر حفظ اللہ سے ذکر کر دیا تھا پس میں نے اس سے کہا شاید تو خلیل احمد پہنچی ہے۔ کہا ہاں میں نے کہا مجھ پر افسوس ہے تو
کیونکر کہتا ہے براہین قاطعہ میں یہ گندی باتیں اور جائز رکھتا ہے تو کذب اللہ عزوجل پر کیوں کرنا راض ہوں میں تھجھ پر اور البتہ تحقیق لکھ کچا ہوں
میں تھجھ کو ان کے برادر زنداقی اور کسی طرح عذر کرتا ہے اور ان کا کرتا ہے حالانکہ براہین قاطعہ چھپ کر تیری جانب سے شائع ہو چکی ہے پس کہا اے
سردار وہ کتاب تو میری ہے مگر اس میں امکان کذب کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر ہے تو میں تو بہ کرتا ہوں اور اس میں جو کچھ غالفت مذہب اہل سنت
و جماعت ہے اس سے رجوع کرتا ہوں پس میں نے کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور براہین میرے پاس موجود ہے ابھی
نکالتا ہوں وہ کہ جس کا تو نے انکار کیا ہے اور جرأۃ کی تو نے اللہ جل شانہ پر تو عذر و خوشنام کرنے لگا اور بولا اگر وہ براہین قاطعہ میں ہے تو مجھ پر افتراء
ہے اور میں مسلمان موحد سنی ہوں۔ میں نے نہ اس میں یہ کہا نہ کچھ اور جو غالفت مذہب اہل سنت سے ہے۔ مجھے تعجب ہوا کیوں کر انکار کرتا ہے اس
بات سے جو چھاپی جا چکی اس کے براہین قاطعہ میں کہ زبان ہندی میں طبع ہوئی اور مجھ پر کھل گیا کہ وہ یہ باتیں تقدیم سے کہتا ہے کویا وہ مثل روافض
کے ہے جو تقدیم کو واجب جانتے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ براہین قاطعہ لا اؤں اور اس شخص کو بلا اؤں جو اس زبان کو سمجھتا ہے تاکہ اس سے اقرار الوں
اس کا جو کچھ براہین قاطعہ میں ہے اور تو بلوں لیکن وہ ہمارے پاس آنے کے دوسرے دن جدہ کو بھاگ گیا ”لا حoul ولا قوۃ الا باللہ“
نے دوست رکھا خبر دار کرنا اس واقعہ پر اور آپ ہمیشہ رہیں۔ (محمد صالح کمال، ۲۸ ذی الحجه ۱۴۲۳ھ)

تھے مسجد الحرام شریف کے احاطے ہی میں ان کامکان تھا انہوں نے تقدیر دعوت سے پہلے با صارتام پوچھا کہ تھے کیا چیز مرغوب ہے؟ چند غذر کیا نہ ما ن آخر گذارش کی کہ "الحلو البارد شیرین سرہان" کے بیہاں دعوت میں انواع اطعمہ جیسے اور جگہ ہوتے تھے ان کے علاوہ ایک عجیب نفسی چیز پائی کہ اس "الحلو البارد" کی پوری مصدق تھی نہایت شیرین و سرد اور خوش ذائقہ ان سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے کہا "رضی الوالدیا" وجہ تمیہ یہ بتائی کہ جس کے ماں باپ نا راض ہوں یہ پکا کر کھلانے راضی ہو جائیں۔ فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چار جگہ ملنے کو جاتا مولا نا شیخ صالح کمال اور شیخ العلما مولانا محمد سعید باصیل اور مولا نا عبد الحق مہاجر اللہ آبادی اور کتب خانے میں مولا نا سید اسماعیل کے پاس رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات اور باقی حضرات فرودگاہ فقیر پر تشریف لایا کرتے صح سے نصف شب کے قریب ملاقاتوں ہی میں وقت صرف ہوتا مولا نا شیخ صالح کمال کی تشریف آوری کی تو گنتی نہیں اور مولا نا سید اسماعیل اتر اماں روزانہ تشریف لاتے خصوصاً ایام علالت میں کہ یکم محرم ۱۳۲۴ھ سے..... محرم تک مسلسل رہی دن میں دو بار بھی تشریف لاتے اور ایک بار کا آنا تو ناغہ ہی نہ ہوتا۔ آخر محرم میں طبیعت بہت رو بہ صحت ہو گئی تھی ایک ضرورت کے سبب دو روز تشریف لانا نہ ہوا ان دو روز میں میراں کی طرف اشتیاق میں ہی جانتا ہوں میں نے ان سید جلیل کو ایک پرچہ پر یہ تین شعر لکھ کر بھیجے

ولو قدرنا مافزنا بطلعتمکم

هذان یومان ما فزنا بطلعتمکم

لاتحبون ان تبرولنا سقما

قالو القاء جلیل لعلیل شفاء

وهل سمعتم کریما یقطع لکر ما

عودتمونا طلوع شمس کل ضھی

یہ دو دن ہیں کہ ہمیں دیدار نہ ملا اور ہم میں طاقت ہوتی تو سر کے بلا آتے۔ لوگ کہتے ہیں لقاء خلیل شفاء علیل ہے یعنی دوست کا آنا مرض کا جانا ہے کہ آپ ہمارے مرض کی شفاء نہیں چاہتے آپ نے ہمیں عادی کر دیا کہ ہر چاشت کو سورج طلوع کریں اور آپ نے کسی کریم کو سنائے کہ کرم قطع کرے۔

اس رقصہ کو دیکھ کر سید موصوف کی جو کیفیت ہوئی حامل رقصہ نے دیکھی فوراً اس کے ساتھ ہی تشریف لے آئے اور پھر دو روز رخصت تک کوئی دن خالی جانا مجھے یاد نہیں۔ حضرت مولا نا عبد الحق اللہ آبادی کو چالیس سال سے زائد مکہ معظمہ میں گزرے تھے کبھی شریف کے بیہاں بھی تشریف نہ لے گئے قیام گاہ فقیر پر دو بارہ تشریف لائے۔ مولا نا سید اسماعیل وغیرہ ان کے تلامذہ فرماتے تھے کہ یہ شخص خرق عادت ہے۔ مولا نا کام بساغنیمت تھا ہندی تھے مگر ان کے انوار مکہ میں چمک رہے تھے اتر اماں ہر سال حج کرتے۔ مولا نا سید اسماعیل فرماتے تھے کہ ایک سال زمانہ حج میں حضرت مولا نا عبد الحق

بہت علیل اور صاحب فراش تھے نویں تاریخ اپنے تلامذہ سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو کئی اٹھا کر لائے کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی کہ الہی حج سے محروم نہ رکھا۔ وقت مولیٰ تعالیٰ نے ایسی قوت فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا کہ معظمہ میں بنام علم کوئی صاحب ایسے نہ تھے جو فقیر کو ملنے نہ آئے ہوں۔ واشیخ عبداللہ بن صدیق بن عباس کے کاس وقت مفتی حنفیہ تھے اور وہاں مفتی حنفیہ کا منصب شریف سے دوسرے درجے میں سمجھا جاتا ہے اپنے منصب کی جلالت قدر نے انہیں فقیر غریب الوطن کے پاس آنے سے روکا۔ اپنے ایک شاگردِ خاص کو فقیر کے پاس بھیجا کہ حضرت مفتی حنفیہ نے بعد سلام فرمایا ہے کہ میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں مولا نا سید اسماعیل اس وقت میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے چاہا کہ حاضری کا وعدہ کروں مگر واللہ اعلم جبیب اکرم ﷺ کے کرم نے ان اکابر کے دل میں اس ذرہ بے مقدار کی کیسی وقعت ڈالی تھی فوراً روکا اور فرمایا واللہ یہ نہ ہو گا۔ تمام علماء ملنے آئے ہیں وہ کیوں نہیں آتے ہیں۔ ان کی قسم کے سبب مجبور رہا مگر قدریہ الہی میں ان سے ملتا تھا اور نئی شان سے تھا اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ انہی دنوں میں مولا نا عبداللہ مردا داد مولا نا حامد احمد محمد جادوی نے نوٹ کے بارے میں فقیر سے استفتاء کیا تھا جس میں بارہ سوال تھے اور میں نے بکمال استجواب اس کے جواب میں رسالت "کفل الفقیہ الفاہم فی الحکام" فرط اس الدارہ تفسیف کیا تھا وہ تبیض کے لئے حرم شریف کے کتب خانے میں سید مصطفیٰ برادر خور دولا نا سید اسماعیل کے پاس تھا کہ نہایت جمیل الخلط ہیں زمانہ سابق میں جب میرے استاذ الاستاذ حضرت مولا نا جمال بن عبداللہ بن عمر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی حنفیہ تھے ان سے نوٹ کے بارے میں سوال ہوا تھا اور جواب تحریر فرمایا تھا کہ علم گردنوں علماء میں امانت ہے مجھے اس کے جزئیہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کچھ حکم دوں۔ ایک دن میں کتب خانہ میں جاتا اور ایک شان دار صاحب کو بیٹھے دیکھتا ہوں کہ میرا رسالت "کفل الفقیہ مطالعہ کر رہے ہیں جب اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے فتح القدر سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزار روپیہ کو پیچے جائز ہے مگر وہ نہیں پھر ک اٹھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولے "این جمال بن عبد اللہ من هذا النص الصريح" ت جمال بن عبد اللہ اس نص صریح سے کہاں غافل رہے۔

پھر کوئی مسئلہ دیکھنا تھا اس کے لئے کتابیں نکلا کر نقل کرنا چاہتے تھے اور میں رسالت کی نقل کی تصحیح کر رہا تھا اس وقت تک نہ انہوں نے مجھے جانا ہے نہ میں نے ان کو اتنے میں انہوں نے دوات ایک ایسی کتاب پر رکھ دی جسے نہ دیکھ رہے تھے نہ اس سے کچھ نقل کر رہے تھے میں نے ان پر نہ اعتراض کیا بلکہ کتاب کی تعظیم کے لئے اتار

کر نیچے رکھ دی اور کہا جو الرائق الکراہیہ میں اس کے جواز کی تصریح ہے میں نے ان سے یہ تو نہ کہا جو الرائق الکراہیہ تک کب پہنچی؟ وہ کتاب القضا میں ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں یہ کہا کہ ایسا نہیں بلکہ ممانعت کی تصریح فرمائی ہے مگر لکھتے وقت بضرورت مثلاً اور قہوہ سے اڑیں نہیں کہا کہ میں لکھنا ہی تو چاہتا ہوں میں نے کہا بھی لکھتے نہیں ہو وہ خاموش ہو رہے ہے اور حضرت سید اسمعیل سے مجھے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ ہی اس رسالہ کا مصنف ہے اب ملے مگر خجالت کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ اٹھ گئے۔ حضرت سید اسمعیل نے فرمایا سبحان اللہ یہ کیا واقعہ ہے یہ چہارم صفر ۱۴۲۲ھ تھی اس سے پہلے محرم شریف میں شدید و مدید دورہ بخار ہو چکا تھا دو بار مسلسل ہوئے ایک بار ایک ہندی کی رائے سے اور نفع نہ ہوا۔ دوبارہ ایک تر کی ڈاکٹر رمضان آفندی نے بہت قلیل مقدار میں ایک نمک دیا کہ آب زمزم میں ملا کر پی لو اور پیاس بے پیاس زمزم شریف کی کثرت کروں سے بحمد اللہ تعالیٰ بہت نفع ہوا اور انہوں نے دوا وہ بتائی جو مجھے بالطبع محبوب و مرغوب تھی یعنی زمزم شریف کے مجھے ہر شرب سے زیادہ عزیز ہے میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پوں تو با آنکھ مزان گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے حکیم سید وزیر علی مرحوم نے میرے یہاں باسی کو منع کر دیا تھا جب سے معمول ہے کہ رات کے گھرے بالکل خالی کر کے پینے کا پانی بھرا جاتا ہے تو میں نے دودھ بھی باسی پانی کا نہ پیا نہ کبھی نہار مذہبیتہ پیتا ہوں نہ کبھی کھانے کے سوا اور وقت میں گریبوں کی سہ پہر میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں انہیں سے تسلیم ہوتی ہے مگر زمزم شریف کی برکت کے سخت میں مرض میں دن میں رات میں تازہ باسی بکثرت پیا اور نفع ہی کیا۔ روز قیس ہر وقت بھری رکھی رہتی تھی بخار کی شدت میں رات کو جب آنکھ کھلی کلی کر کے زمزم شریف پی لیا۔ صح وضو سے پہلے پیتا بارہ بارہ زو قیس ایک دن ایک رات میں صرف میرے صرف میں اتنی، پونے تین مہینہ کے ایام مکہ میں میں نے حساب کیا تو تقریباً چار میں زمزم شریف میرے پینے میں آیا ہوگا۔ حضرت مولا نا سید اسمعیل کو اللہ تعالیٰ جناتِ عالیہ عطا فرمائے میری واپسی حج کے چند سال بعد جب ۱۴۲۸ھ میں مجھ سے ملنے آئے اور میرے شوق زمزم کو ذکر ہوا فرمایا تھا کہ ہر مہینہ اتنے طنک یعنی پیسے بھیج دیا کروں گا کہ تمہارے ایک مہینے کے صرف کوکافی ہوں مگر یہاں سے جاتے ہیں انہیں سفر باب عالی کی ضرورت ہوئی اور مشیت الہی کو ہیں انتقال فرمایا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واسعة

زمزم شریف مجھے تقریباً بخار ہی میں گز را اسی حالت میں علماء کرام کو اجازات لکھی جاتیں اور اسی حالت میں ”**کفل الفقیر تعلیف**“ ہوئی۔ ہاں پنگ کاروچ نہیں بالاخانوں میں ز میں پر فرش ہیں اس پر سوتے ہیں مگر حضرت سید اسمعیل و حضرت مولا نا شیخ صالح کمال رحمہما اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک عمدہ پنگ ملگوادیا تھا۔ ایام مرض میں میں

اسی پر سوتا اور علماء عظاماء عیادت کو آتے اور فرش پر شریف رکھتے اس سے نادم ہوتا ہر چند چاہتا کہ نیچے اتروں مگر قسموں سے مجبور فرماتے امتداد مرض میں مجھے زیادہ فکر حاضری سر کارا عظم کی تھی جب بخار کو امتداد دیکھا میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا یہ علماء مانع ہوئے اول تو یہ فرمایا کہ حالت تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی اگرچہ پوچھتے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ یہ دنوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میں حالت پر اشعار پڑھے۔ میں نے حدیث "من حج و لم یزرنی فقد جفہ" فرمایا تم ایک بار تو زیارت شریف کر چکے ہو میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں عمر میں کتنے حج کر لے زیارت ایک بار کافی ہے بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار تک پہنچ لوں روضۃ القدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگر چہ اسی وقت دم نکل جائے۔

حضرت مولانا شیخ صالح کمال کو اللہ تعالیٰ جنات عالیہ عطا فرمائے ہاں فضل و کمال کیمیرے نزدیک مکہ معظمه میں ان کے پائے کا دوسرا عالم نہ تھا اس فقیر حقیر کے ساتھ غایبت اعزاز بلکہ ادب کا برتاؤ رکھتے بار بار کے اصرار کے ساتھ مجھ سے اجازت نامہ لکھوایا جسے میں نے ادبائی روٹا لے جب مجبور فرمایا لکھ دیا۔ تین تین پھر میری ان کی مجالست ہوئی اور اس میں سوانح اکرات علمیہ کے کچھ نہ ہوتا۔ جس زمانہ میں قاضی مکہ معظمه رہے تھا اس وقت کے اپنے فیصلوں کے مسئلے دریافت فرماتے حقیر جو بیان کرتا اگر ان کے فیصلے کے موافق ہوتا بنا شدت و خوشی کا اثر چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتا اور مخالف ہوتا تو ملال و کبیدگی اور یہ سمجھتے کہ مجھ سے حکم میں لغزش ہوئی مجھے بھی ان دونوں صاحبوں کے کرم کے سبب ان سے کمال بے تکلفی ہر قسم کی بات گذارش کر دیتا۔ ایک بار کہا موزونوں نے یہ جوازان واقامت تکمیرات انتقال میں نغمات ایجاد کئے ہیں آپ حضرات ان سے منع نہیں فرماتے۔ فتح القدر میں مبلغ (یعنی مکبر) کے نغموں کو مفسد نماز لکھا ہے اور یہ کہ اس کی تکمیرات پر جو مقتدری رکوع و بجود و افعال نماز کرے گا اس کی نماز نہ ہو گی فرمایا حکم یہی ہے مگر ان پر علماء کا بس نہیں جانب سلطنت سے ہے ایک جمعہ میں میں خطیب کے قریب تھا اس نے خطبہ میں پڑھا "ارض عن اعمام نبیک الا لطائب حمزہ والعباس وابی طالب" یہ بدعت تازہ ایجاد ہوئی پہلی بار کے حاضری میں نہ تھی اور یہ بدراہت جانب حکومت سے تھی اسے سننے ہیں فوراً میری زبان سے باواز باند نکلا "اللهم هذا منکر" کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فقلبه

وذلک اضعف الایمان

فقیر بتو فیق رب کریم یہ حکم احکم بروجہ اوسط بجالا یا اور مولیٰ کی رحمت کہ کسی کو تعریض کی جرأت نہ ہوئی فرضوں کے بعد ایک اعرابی نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا ”رایت“ تم نے دیکھا۔ میں نے کہا ”رایت“ ہاں دیکھا کہا ”لاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم“ تشریف لے گئے ان دونوں اکابر علماء نے ہماری مجلس خلوت میں اس کی مبارک بادی کے اس رومنگر پر کوئی متعارض نہ ہوا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے امور میں کہ جانب حکومت سے ہیں سکوت شایاں ہے۔

اسی واقعہ مفتی حنفیہ کے وقت میں نے سید مصطفیٰ خلیل برادر حضرت مولانا سید اسماعیل سے کہا ”**هل عنکم شئی من هذمة جب آپلے**“ پاس جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ٹھوکر کا کچھ بقیہ ہے۔ سیدزادے نے فرمایا ”**نعم**“ کٹورے میں زم زم شریف لائے ہیں اسے ضعف کے سبب بیٹھا ہوا پی رہا تھا آنکھیں پنجی تھیں جب نظر اٹھائی دیکھا تو وہ سید جلیل مودب ہاتھ باندھ کھڑے ہیں یہاں تک کہ کٹورا میں نے انہیں دیا۔ یہ حال ان معظم معزز بندگان خدا کے ادب و جلال کا تھا۔ باسیں ہمہ شدت مرض و شوقی مدینہ طیبہ میں جب وہ جملہ میں نے کہا کہ روضہ انوار پر ایک نگاہ پڑ جائے پھر دم نکل جائے۔ دونوں علمائے کرام کا غصہ سے رنگ متغیر ہو گیا اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ”**تعود ثم تعود ثم يکون**“ تھی تو روضہ انوار پر اب حاضر ہو، پھر حاضر ہو، پھر حاضر ہو، پھر مدینہ طیبہ میں وفات نصیب ہو۔

مولیٰ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے ان کی اس غایبت محبت کے غصہ نے مجھے وہ حالت یاد دلائی جو اس حج سے تیرہ چودہ برس پہلے میں نے خواب میں اپنے حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز سے دیکھی تھی میں اس زمانہ میں بہت درد و کمر اور سینہ میں بتلا تھا اس سے بہت امداد و اشتہاد ہوا تھا۔ ایک روز دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کے میرے پیر بھائی اور پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے کم ایسا ہوا ہو گا کہ حضرت پیر مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو رواں نہ ہوتے جب ان کا انتقال ہوا اور میں دن کے وقت ان کی قبر میں اترنا مجھے بلا مبالغہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارتِ اقدس حضور اکرم ﷺ سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لئے جاتے ہیں عرض کی یا رسول حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے الحمد للہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا اور یہ وہی برکات احمد تھیں کہ محبت پیر مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئیں۔

مَنْ يَشَاءُۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ہاں تو اس خواب میں دیکھا کہ مولوی برکات احمد صاحب بھی حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز کے ہمراہ میری عیادت کو تشریف لائے ہیں دونوں حضرات نے مزاج پر سی فرمائی میں شدتِ مرض سے نگ آپ کا تھا زبان سے نکلا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اب خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ سنتے ہی حضرت والد ماجد قدس سرہ کارنگ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا بھی تو باون بر س مدینہ شریف۔ واللہ اعلم اس ارشاد کے کیا معنی تھے مگر اس کے بعد جو دوبارہ حاضری مدینہ طیبہ ہوئی ہے اس وقت مجھے باوان ہی سال تھا یعنی اکاؤن بر س پانچ مہینے کی عمر تھی یہ چودہ بر س کی پیشان گوئی حضرت نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو کہ حضور اکرم ﷺ کے غلامانِ غلام کے کفش بردار ہیں علوم غیب دیتا ہے اور وہابیہ کو جناب سرکار سے انکار ہے ابھی چند ماہ ہوئے ماہِ ربیع میں حضرت والد ماجد قدس سرہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہو گاروزہ نہ چھوڑنا، ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب نے کہا میں نے محمد اللہ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضلہ تعالیٰ شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے ”صوموا تصحوا“ رکھو تدرست ہو جاؤ گے۔ وہ حضرات بہت اس کے متنی رہتے کہ کسی طرح میرا وہاں قیام زیادہ ہو حضرت مولا ناسید اسمعیل نے فرمایا یہاں کی شدت گرمی تمہارے لئے باعث تپ ہے طائف شریف میں موسم نہایت معتدل اور وہاں میرا مکان بہت پُر فضا ہے۔ چلے گرمی کا موسم وہاں گزاریں میں نے گذارش کی کہ اس حالت میں قابلیت سفر ہو تو سرکارِ اعظم ہی کی حاضر ہو۔ نہ کہ فرمایا کہ میرا مقصود یہ تھا کہ چند مہینے وہاں تھائی میں رہ کر تم سے کچھ پڑھتے کہ یہاں تو آمد و شد کے بھوم سے تمہیں فرصت نہیں۔ مولا نا شیخ صالح کمال نے فرمایا اجازت ہو تو ہم یہاں تمہاری شادی کی تجویز کریں میں نے کہا وہ کنیز بارگاہ اللہی جسے میں اس کے دربار میں لایا اور اس نے مناسک حج ادا کئے کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں اسے یوں مغموم کروں فرمایا ہمارا خیال یہ تھا کہ یوں تمہارے قیام کا سامان ہو جاتا۔

اس طول مرض میں کئی ہفتہ حاضری مسجد قدس سے محروم رہا کہ میں جس بالاخانے پر تھا چالیس زینے کا تھا اور اس سے اترنا اور چڑھنا نہ مقدر تھا۔ مسجد الحرام شریف میں کوئی نا آشنا سے بزرگ میرے بھائی مولوی محمد رمضان خاں کو ملے تو فرمایا کئی دن سے تمہارے بھائی کو نہ دیکھا انہوں نے عرض کیا علیل ہیں پانی دم فرمایا کہ یہ پاؤ اور اگر بخار باقی رہے تو میں دس بجے دن کے تم کو بیہیں ملوں گا۔ دس بجے دن کے نہ بخار ہانہ وہ ملے اور اب میں مسجد شریف اور کتب خانہ حرم شریف میں حاضر ہونے لگا جس میں چوتھی صفر کا وہ واقع تھا جو مفتی حنفیہ کے ساتھ پیش آیا۔ نماز صبح کے سوا کہ ہمارے نزدیک اس میں اسفار یعنی وقت خوب روشن کر کے پڑھنا افضل ہے اور شافعیہ کے نزدیک تعلیس یعنی خوب اندھیرے

سے پڑھنا تین مصلوں پر نماز پہلے ہو جاتی ہے اور مصلائے حنفی پر سب کے بعد باقی چار نمازوں سب سے پہلے مصلائے حنفی پر ہوتی ہے۔ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وقت عصر دو مشل سایہ گزر کر ہے اس کے بعد نماز حنفی ہوتی ہے اس کے بعد باقی تین مصلوں پر وہ لوگ اپنے لئے اسے بہت تاخیر سمجھتے آخر کوشش کر کے حنفیہ سے یہ کرایا کہ تمام عصر مطابق قول صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثلاً دوم کے شروع میں پڑھ لیں۔ اس بار کی حاضری میں یہ جدید بات دیکھی اگرچہ کتب حنفیہ میں یہاں قول صاحبین پر بھی بعض نے فتویٰ دیا مگر "اصح و اخوط واقع قدر" سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور فقیر کا معمول ہے کہ کسی مسئلہ میں بے خاص مجبوری کے قول امام سے عدول گوارانیں کرتا جس کی تفصیل جلیل میرے رسالت "اجل الاعلام بان الفتوی مطلاقاً قول الامام" میں ہے۔

اذاقال الامام فصدقۃ

فان القول ماقال الامام

ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی یا شیعیائی میں اس بار جماعت میں بہ نیت نقل شریک ہو جاتا اور فرض عصر مشل دوم کے بعد میں اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال حضرت مولانا سید اسمعیل و دیگر بعض محتاطین حنفیہ اپنی جماعت سے پڑھتے جس میں وہ حضرات امامت پر اس فقیر کو مجبور فرماتے۔ پہلے شیخ عمر حنفی کامکان کرایہ پر لیا تھا پھر سید عمر شیدی ابن سید ابو بکر شیدی اپنے مکان پر لے گئے۔ بلاخانے کے دروازے پر میری نشست تھی دروازوں پر جو طاق تھے باہمیں جانب کے طاق میں وجہی کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا تھا وہ تنکے لاتے اور گرایا کرتے۔ اس طرف کے بیٹھنے والوں پر گرتے جب علات میں میرے لئے پلنگ لایا گیا وہ اس در کے سامنے بچھایا گیا کہ تشریف لانے والوں کے لئے جگہ وسیع رہے اس وقت سے کبوتروں نے وہ طاق چھوڑ کر دروازہ وسطانی کے طاق میں بیٹھنا شروع کیا کہ اب جو وہاں بیٹھتے ان پر تنکے گرتے۔

حضرت مولانا سید اسمعیل نے فرمایا وہ حنفی کبوتر بھی تیر الحاظ کرتے ہیں میں نے عرض کی "اصلاحاً هم فصالحونا" ہم نے ان سے صلح کی تو انہوں نے بھی ہم سے صلح کی۔ اس پر بعض علماء حاضرین نے فرمایا کہ ہم پر کیوں تنکے پھینکتے ہیں ہم نے ان سے کون سی جنگ کی ہے۔ میں نے کہا میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ جہاں آ کر بیٹھتے ہیں انہیں اڑاتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں سلامیوں کی تو پیس جب چھوٹی ہیں یہ خوف سے تحریر اکر رہ جاتے ہیں یہ سب میرا مشاہدہ ہے حالانکہ یہ حرم محترم کے وجہی ہیں انہیں اڑانا یا ذرا منع ہے۔ پیڑ کے سایہ میں حرم کا ہر بیٹھتا ہو آدمی کو اجازت نہیں کہ اسے اٹھا کر خود بیٹھے۔ ان علماء نے فرمایا یہ کتو بر ایذا دیتے ہیں اور سے کنکریاں پھینکتے ہیں لیہ پ کی چمنی توڑ دیتے ہیں میں نے کہا کیا یہ ابتدأ بالا ایذا کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں نے کہا تو فاسق ہوئے اور کبوتر بالا جماع فاسق نہیں چیل کوے فاسق ہیں وہ ساکت

ہو گئے شریعت میں وہ جانور فاسق نہیں ہے جو بغیر اپنے نفع کے بالقصد ایذا پہنچائے ایسے جانور کا قتل حرم شریف میں بھی جائز ہے جیسے چیل، کوا، بندر، چوبا، چیل، کوئے زیور اٹھا کر لے جاتے ہیں، بندر کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، چوبے کتائیں کرتے ہیں جس میں ان کا کوئی نفع نہیں محض بر اشراط ایذا دیتے ہیں لہذا فاسق ہیں بخلاف بیلی کے کہ اگر چہ مرغی بکڑتی ہے کبتو تو رُتی ہے مگر اپنی غذا کے لئے نہ تمہاری ایذا کے لئے۔ لکن کیاں اگر طاق میں ہوں کبوتر کے چلنے پھرنے سے گریں گی نہ یہ کہ چمنی پر کنکری مارنا انہیں مقصود ہو اس قسم کے وقایع بہت تھے کہ یاد نہیں اگر اسی وقت منضبط کر لئے جاتے محفوظ رہتے مگر اس کا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی احساس نہ تھا۔

جب اوخر محرم میں بفضلہ تعالیٰ صحت ہوئی وہاں ایک سلطانی حمام ہے۔ میں اس میں نہایا باہر نکلا ہوں کہ ابر دیکھا حرم شریف پہنچتے پہنچتے بر سنا شروع ہو گیا۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ جو یہنہ برستے میں طواف کر لے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے فوراً سنگ اسود شریف کا بوسر لے کر بارش ہی میں سات پھیرے طواف کیا بخار پھر عود کر آیا۔ مولانا سید اسماعیل نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ یہ طواف بحمد اللہ تعالیٰ بہت مزے کا تھا بارش کے سبب طائفین کی وہ کثرت نہ تھی اور اس سے زیادہ لطف کا طواف بفضلہ تعالیٰ گیارہویں ذی الحجہ کو نصیب ہوا تھا۔ طوافِ زیارت کے لئے کہ بعد وقف عرفہ فرض ہے عام جاج دسویں ہی کومنی سے مکہ معظمه جاتے ہیں میرے ساتھ مستورات تھیں اور خود بھی بخار اٹھائے ہوئے تھا گیارہویں کہ بعد زوال رمی جمار کر کے اونٹوں پر مع مستورات روانہ ہوا حرم شریف میں نمازِ عصر ادا کی۔ آج تمام جاج منی میں تھے حرم شریف میں صرف پچیس تیس آدمی یہ طواف نہایت اطمینان سے ہوا ہر بار جی بھر کر سنگ اسود شریف پر منہ ملنا اور بوسر لینا نصیب ہوتا۔ ایک اعرابی صاحب کو جنہیں پہچانتا نہیں مولیٰ تعالیٰ نے بے کہہ مہربان فرمادیا کہ ہر پھیرے کے ختم پر چند آدمی جو طواف کر رہے تھے انہیں روک کر کھڑے ہو جاتے کہ سورتوں کو سنگ اسود شریف کا بوسر لینے دیوں ہر پھیرے پر میرے ساتھ کی مستورات بھی شرف بہ بوسر سنگ اسود ہوئیں۔

والحمد للہ وفضل اللہ بعد ختم طواف میں دیوارِ کعبہ معظمه سے لپٹا اور غلاف مبارک ہاتھ میں لے کر یہ دعا عرض کرنی شروع کی ”یا واجد یا ماجد لاتزل عنی نعمۃ انعمتہ لعلیت“ پر کیف رقت طاری ہوئی کہ آزادی و یکسوئی تھی مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک عبری صاحب میرے برادر آکر کھڑے ہوئے اور باؤاز چلا کر رونا شروع کر دیا ان کے چلانے سے کچھ طبیعت بھی پھر خیال آیا ممکن کہ یہ مقبولان بارگاہ سے ہوں اور ان کے قرب کا فیض مجھ پر جلی ڈالے

اس تصور سے پھر اطمینان ہو گیا۔

مغرب پڑھ کر منی کو واپس آئے اس تقریباً تین مہینے کے قیام میں میں نے خیال کیا کہ حدیث میں کسی کی سند
میری سند سے عالی تھی یہ بھی خیال کیا کہ یہ شہر کریم تمام جہاں کا بلا و ماوی ہے اہل مغرب بھی یہاں آتے ہیں ممکن کہ کوئی
صاحب جفر داں مل جائیں کہ ان سے اس فن کی تجھیل کی جائے۔ ایک صاحب معلوم ہوئے کہ جفر میں مشہور ہیں نام
پوچھا معلوم ہوا مولا ن عبد الرحمن دہان حضرت مولانا احمد دہان کے چھوٹے صاحبزادے۔ میں نام سن کر اس لئے خوش ہوا
کہ یہ اور ان کے بڑے بھائی صاحب مولانا احمد دہان کا ب قاضی مکہ معظمہ ہیں مجھ سے سند حدیث لے چکے ہیں میں
نے مولانا عبد الرحمن کو بلا یادہ تشریف لائے کئی گھنٹے خلوت رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قaudہ جوان کے پاس ناقص تھا
قدرے اس کی تجھیل ہو گئی اس کے قریب سرکارِ مدینہ طیبہ میں واقع ہوا وہاں بھی ایک صاحب عبد الرحمن نام ہی کے
ملے۔ یہ عبد الرحمن وہاں عربی بکی ہیں اور وہ عبد الرحمن آنڈی شامی ترکی، کئی روز متصل تشریف لاتے اور دیر تک بیٹھ کر چلے
جاتے۔ ہجوم حضرات اہل علم و معارزین کے سبب انہیں بات کا موقع نہ ملتا ایک دن میں نے ان سے غرض پوچھی کہا تھا ای
میں کہوں گا دوسرے دن ان کے لئے وقت نکلا کہاں میں جفر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے
فرمایا یہاں نہ میرا اب قیام ہے نہ تیرا میں خاص اس کی تحریک کو تیرے پاس ہندوستان آؤں گا وہ تو نہ آئے مگر مولا نا سید
حسین مدفنی، صاحبزادہ مولانا عبد القادر شامی مدفنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور چودہ مہینے فقیر خانے پر قیام فرمایا
اور یہ علم اور علم اوفاق دیکھیا گیا۔ انہیں کے لئے میں نے اپنارسالہ "اطائب الکبیر فی علم التکسیع علی
زبان میں الملا کیا یعنی میں عبارت زبانی بولتا اور وہ لکھتے جاتے اور اسی لکھنے میں اسے سمجھتے جاتے۔ علم جفر میں اتنی دست
گاہ ہو گئی تھی کہ پانچ سوالوں میں دو کا جواب صحیح نکال لیتے کہ ان کے لئے میں نے اس علم سے اجازت تعلیم کا سوال پہلے
کر لیا تھا اور جواب ملا کہ ضرور بتاؤ کہ یہ اسی کے واسطے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اگر چند مہینے اور رہتے تو امید تھی کہ
سب جواب صحیح نکال لیتے۔ میں نے جو جداول کثیرہ اس فن کی تجھیل جلیل کے لئے اپنی طبعز ادایجا دکی تھیں رخصت کے
وقت انہیں نذر کر دیں کہ خود اس فن کے ترک کا قصد کر لیا تھا جس کی وجہ سوالوں کی کثرت سے لوگوں کا پریشان کرنا تھا اور
بالخصوص یہ عجیب واقعہ کہ ایک امیر کبیر کی بیگم بیمار ہوئی جن کا مذہب سنی نہ تھا۔ انہوں نے میرے آقا زادے حضرت
سید نا سید شاہ مہدی حسن میاں صاحب دامت برکاتہم کے ذریعہ سے سوال کرایا جواب نکلا سنبھیت اختیار کریں ورنہ شفاء
نہیں اور اس فن کا یہ حکم ہے کہ جو جواب نکلے بالا و رعایت صاف کہہ دیا جائے میں نے یہی لکھ بھیجا یہ منظور نہ ہوا اور مرض

بڑھتا گیا۔ اب حضرت ہی کے ذریعے یہ سوال آیا کہ موت کب اور کہاں ہوگی اپنے شہر میں یا نئی تال پر کہاں وقت
تبدیل آب و ہوا کے لئے مریض کا دیہ قیام تھا یہ سوال المکرم ۱۳۲۸ھ کو جواب نکا محرم یعنی ماہ محرم میں موت
ہوگی اور کہاں ہوگی اس کے جواب میں میں نے ان کے شہر کے نام کا پہلا حرف اور اس کے بعد ق اور اس کے بعد ۲ کا
ہندسہ اور آگے لفظ خویش لکھ دیا وہاں کے جفار بلائے گئے کہ اس محمد کو حل کریں انہوں نے حرف نام شہر سے تو شہر مرا دلیا
اور قاف سے قلعہ اور آگے نہیں چلتا حالانکہ اس حرف سے شہر مرا دھا اور ق سے قریب اور دو سے حرف ب کا اول لفظ بیت
ہے یعنی موت نئی تال میں نہ ہوگی بلکہ اپنے شہر میں مگر نہ اپنے محل میں بلکہ قریب بیت خویش دوسری جگہ میں۔ ایسا ہی ہوا
تو ۷ محرم کو اپنے شہر کے ایک باغ میں موت واقع ہوئی جب اس جواب کا شہر ہوا اطراف سے جلد بازوں کے خط
ذیقعدہ ہی سے آنے لگے کہم نے تو موت کی خبر دی تھی اور ابھی نہ ہوئی۔ میں نے کہا بھائیوں اگر محرم سے پہلے موت
واقع ہو تو جواب غلط ہو جائے گا نہ کہ اس کی صحت کے لئے تم ابھی سے موت تلاش کرتے ہو اور اس قسم کے طوفان بے
تمیزی کے سبب میں نے یہ قصد کر لیا کہ اگر یہ جواب غلط گیا تو اس فن پر اتنی محنت کروں گا کہ باذ نہ تعالیٰ پھر غلطی نہ ہو۔ یہ
علم تمام علوم سے مشکل تر اور سکھانے والے مفقودا اور اکابر مصنفین کو مکمال اخفا مقصود جو علوم ظاہر ہیں اور مصنفین و معلمین
ان کا اعلان چاہتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ کتاب کچھ کہتی ہے اور ناظر کچھ سمجھتا ہے تو اس علم میں نظر کی غلط فہمی کیا
تعجب ہے اور وہ بھی مجھے جیسے کے لئے جس نے نہ کسی سے سیکھا نہ کوئی مشورہ و مذاکرہ کرنے والا۔ صرف ایک قاعدہ
”بدوح میں“ کہ مزدوجات سے ہے والا حضرت عظیم البر کۃ حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں صاحب قدس
سرہ العزیز نے ۱۴۹۲ھ میں تذکرہ تعلیم فرمایا تھا اس کے بعد جو کتابیں اس فن کے نام سے مشہور و راجح ہیں ان کی نسبت
اسی فن سے سوال کیا اس نے ان پر نہایت تشنج کی اور کہا یہ سب مہمل و باطل اور جانے کے قابل ہیں صرف دو کتابوں کی
مدح کی جوان سے راجح کتابوں سے جدا ہیں جن میں ایک حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف
ہے وہ دونوں کتابیں مولی عز و جل نے مجھے بھم کر دیں انہیں مطالعہ کیا جہاں تک روز مطالعہ انکشاف ہوا ہوا اور جہاں
مطلوب حضرات مصنفین نے ذہن میں رکھا تھا اس کی نسبت جتنا قاعدہ معلوم ہو لیا تھا اس سے سوال کئے۔ اس نے
مطلوب بتایا ایک قاعدہ اور حل ہوا ب جو آگے الجھا اس سے پوچھا اس نے بتایا اور حل ہوا اس طور پر اس فن کی قدرے
ابجد معلوم ہوئی۔ میری کتاب ”سفر السفر عن الجفر بالجفر“ انہیں مباحثت میں ہے جس میں سائٹھ سوال جواب
ہیں یعنی جفر سے جفر کو واضح کرنے کی کتاب اس نے ایک دوسرے علم زانچے کے ایک عظیم سر مکنوم کو بھی واضح کیا جس کی

نسبت حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ زانچے میں ہے کہ زمانہ سیدنا شیعث علیہ السلام سے اس راز کے اخفاء کا حل فی عهد ہے۔ رسائل فن میں نہایت غامض چیستان کی طرح اس کے بارہ پے دیئے گئے ہیں ازاں جملہ یہ کہ خاتم آدم میں ہے میں نے اس کی نسبت بھی اسی پہلے قاعدہ جفر سے سوال کیا اس نے روشن طور سے بتادیا اب جوان بارہ ہمیلوں کو دیکھوں تو سب خود بخوبی مذکشف ہو گئیں میرے جی میں آیا کچھ اس فن کی طرف بھی توجہ کروں کہ اس کا راز یہاں تو کھل ہی گیا ہے اس پر اقدام کا ائمہ فن نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ چند روز کچھ اسماںؑ الہیہ تلاوت کئے جاتے ہیں مدت مدعاوہ میں خوش نصیب بندہ بکرم اللہ تعالیٰ زیارتِ جمال جہاں آرائے حضور اکرم ﷺ سے مشرف ہوتا ہے اگر سر کارِ اقدس سے اس فن میں اشتغال اذن ملے مشغول ہو ورنہ چھوڑ دے میں نے وہ اسماںؑ طیبہ تلاوت کئے پہلے ہفتہ میں سر کار کا کرم ہوا جسے میں پہلے شاید کہ بھی کر چکا ہوں۔ اس سے اذن کا استنباط ہو سکتا تھا مگر میں نے ظاہر پر محوال کر کے ترک کر دیا۔ غرض جفر سے جواب جو کچھ نکلے ضرور حق ہو گا کہ علم اولیائے کرام کا ہے اہل بیت عظام کا ہے، امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے مگر اپنی غلط فہمی کچھ اچنانیں تو اگر یہ جواب غلط گیا کافی محنت کروں گا اور صحیح اتر ا تو فن کا اشتغال چھوڑ دوں گا کہ آئے دن سوالوں کی محنت اور ائمہ اعتراضوں کی وقت کون ہے۔ جواب بحمد اللہ تعالیٰ پورا صحیح اتر اور میں نے اشتغال چھوڑ دیا۔ طبعز ارجاد اول کہ تدقیق نام سے بنائی تھیں اور جنہوں نے اس فن کے بہت اعمال مشکلہ کو آسان کر دیا تھا چلتے وقت حضرت سید صاحب موصوف کے نذر کردیں ان سے پہلے مولانا عبدالغفار صاحب بخاری اسی فن کے سکھنے کو تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حیدر آباد سے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کی خدمت میں عریضہ لکھا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام خطوط سے نہیں ہو سکتا خود آئیے۔ وہ مارہرہ شریف آئے اتنے میں حضرت بریلی تشریف لے آئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خاں سلمہ کے یہاں رونق افروز ہیں کہ عصر کے وقت مولوی صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ کمال متقی و صالح و عالم تھے وہ جہاں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خیر و خوبی سے رکھے حضرت قدس سرہ نے فقیر سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ سیکھوں کو بتاؤں۔ میں ارشادِ حضرت کے سبب حسب قاعدہ اس فن سے اجازت طلب نہ کر سکا کہ اگر ممانعت ہوئی تو حکم حضرت کا کیونکر کروں گا۔ آٹھ مہینے تک انہیں سکھایا ایام سرما میں بعض دفعہ رات کے دونج جاتے وہ عالم پورے تھے تو اعد خوب منضبط کرنے آٹھ پہر میں ایک سوال نہایت اجلاب اضابطہ مرتب فرمائیتے اور جواب تلاش کرتے نہ ملتا مجھے دکھاتے۔ میں گزارش کرتا دیکھنے یہ جواب رکھا ہے اپنی ران پر ہاتھ مارتے کہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا میں گزارش کرتا کہ جتنی بات تعلیم کے متعلق تھی وہ آپ کو پوری آگئی رہا جواب وہ القاء ملک سے ہے اگر القاء نہ ہوا پنا کیا

اختیار۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اس علم سے بے اجازت لئے انہیں سکھایا آٹھ مہینے رہے اور چلتے فرمائے کہ میں جیسا آیا تھا ویسا ہی جاتا ہوں ان کی محبت و صلاح و تقویٰ کے سبب اکثر ان کی یاد آ جاتی ہے۔ جزیرہ سنگاپور سے ایک خط ان کا آیا تھا اس کے بعد سے کچھ پتہ معلوم نہیں۔ سید حسین مدینی صاحب ساکوئی سیر چشم و بے طمع عربی میں نے ان عرب سے آنے والوں میں نہ دیکھا ان کی خوبیاں دل پر نقش ہیں۔

میں حضرت سید اسمعیل کا تذکرہ اکثر ان کے سامنے کرتا تو فرماتے رہے سعادت ان کی کران کی ایسی یاد تھا رے قلب میں ہے اب اپنے چلے جانے کے بعد وہ کیوں کر دیکھیں کہ ان کی کتنی یاد ہے۔ یہاں سے ملک چین تشریف لے گئے پھر ان کا کوئی خط بھی نہ آیا نہ مدتیں تک مدینہ طیبہ ان کا کوئی خط گیا۔ ان کے چھوٹے بھائی سید ابراہیم مدینی ان سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے وہ اس زمانے میں قازان کو گئے ہوئے تھے کہ ملک روس میں ہے اور یہ تبت کو ان کے بڑے بھائی سید احمد خطیب مدینی کے خطوط آتے کہ والدہ بہت پریشان ہیں سید حسین کہاں ہیں یہاں کے پتے معلوم تھا اب سن گیا ہے کہ شاید مدینہ طیبہ پہنچ گئے یہ سید صاحب محمد مدینی کا بیان ہے جو چار سال تشریف تشریف لائے تھے۔

خیریہ تو جملہ مفترضہ تھا صفر کے پہلے عشرہ میں عزم حاضری سر کارِ اعظم مصمم ہو گیا اونٹ کرائے کرنے سب اشرفیاں پیشگی دے دیں، آج سب اکابر علماء سے رخصت ہونے کو ملا وہاں پان کی جگہ چائے کی تواضع ہے اور انکار سے برانتے ہیں، ہر جگہ چائے پینی ہوئی جس کا شمار نوجوان تک پہنچا اور وہاں بے دودھ کی چائے پینتے ہیں جس کا میں عادی نہیں اور چائے گردے کو مضر ہے اور میرے گردے ضعیف رات کو معاذ اللہ شدت حوالی گرde کا درد ہوا ساری شب جاگتے کئی۔ صحیح ہی سفر کا قصد تھا کہ مجبوراً ملتوی رہا جمالوں سے کہہ دیا گیا کہ تاشفاء نہیں جاسکتے وہ چلے گئے اور اشرفیاں بھی انہی کے ساتھ گئی۔ ترکی ڈاکٹر رمضان آنندی نے پلاسٹرگائے دو ہفتے سے زائد تک معا الجے کئے بحمد اللہ شفاء ہوئی مگر اب بھی دن میں پانچ چھ بار چمک ہو جاتی تھی۔

اسی حالت میں دوبارہ اونٹ کرائے کئے سب نے کہا اونٹ کی سواری میں کھال بہت ہو گی اور حال یہ ہے مگر میں نے نہ مانا اور تو کل علی اللہ تعالیٰ صفر ۱۳۲۳ھ کو کعبہ تن سے کعبہ جاں کی طرف روانہ ہوا۔ برادر بشریت مجھے خیال آتا تھا کہ اونٹ کی کھال سے کیا حال ہو گا لہذا اس بار سلطانی راستہ اختیار نہ کیا کہ بارہ منزلیں اونٹ کی ہوں گی بلکہ جدہ سے برادر کشتی رانی جانے کا قصد کیا مگر ان کے کرم کے صدقے ان سے استعانت عرض کی اور ان کا نام پاک لے کر اونٹ پر

سوار ہوا۔ کھال کا ضرر پہنچنا درکنار وہ چمک کر روزانہ پانچ چھ بار ہو جاتی تھی دفعہ دفع ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ایک قرن سے زیادہ گزر اک لبغضہ تعالیٰ اب تک نہ ہوئی ہے یہ ہے ان کی رحمت یہ ہے ان سے استعانت کی برکت ﷺ۔

حضرت مولانا سید اسماعیل اور بعض دیگر حضرات شہر مبارک سے باہر دور تک برہم مشایعت تشریف لائے مجھ میں بوجہ ضعف مرض پیادہ چلنے کی طاقت نہ تھی پھر بھی ان کی تعظیم کے لئے ہر چند اترنا چاہا مگر ان حضرات نے مجوز کیا پہلی رات کر جنگل میں آئی صحیح کے مثل روشن معلوم ہوتی تھی جس کا اشارہ میں نے اپنے قصیدہ حضور جان نور میں کیا جو حاضری دربارِ معلیٰ میں لکھا گیا تھا کہ

وہ دیکھ جگمگاتی ہے شب اور قرابھی
پہروں نہیں کہ بست و چہار م صفر کی ہے

جده سے کشتی میں سوار ہوئے کوئی تمیں چالیس آدمی اور ہوں گے کشتی بہت بڑی تھی جسے ساعیہ کہتے ہیں اس میں جہاز کا سامستول تھا ہوا کے لئے پر دے حسب حاجت مختلف جہالت پر بد لے جاتے، جب شی ملاح کا س کام پر مقرر تھے ان کے کھولنے باندھنے کے وقت اکابر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عجب اچھے لبھے سے مزاكرتے جاتے۔ ایک حضور سیدنا غوثیٰ عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دوسرا حضرت سید احمد کبیر، تیسرا حضرت سیدی احمد رفائلی کو، چوتھا حضرت سیدی اہدل کوئی ہذا القیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہر کشش پران کی یہ آوازیں عجب دل کش لبھے سے ہوتیں اور بہت خوش آتیں۔

ایک جب شی صاحب نے اپنی حاجت سے بہت زیادہ جگہ پر قبضہ کر کھا تھا ان سے کہا گیا نہ مانے معلوم ہوا کہ ان پر اثر ان دوسرے بصری شیخ عثمان کا ہے۔ میں نے ان سے کہا یا شیخ انہوں نے کہا اشیخ عبدالقار در جیلانی شیخ تو حضرت عبدالقار در جیلانی ہیں۔ ان کے اس کہنے کی لذت آج تک میرے قلب میں ہے انہوں نے اس پہلے بزرگ کو سمجھا دیا اس کے بعد جب ان کو کچھ حالات معلوم ہوئے پھر تو وہ نہایت مخلص بلکہ کمال مطیع تھے۔ تین روز میں کشتی رانی پہنچی یہاں تک سردار شیخ حسین تھے ٹیلوں کے مکان قیام کے لئے تھے جب ان میں اترانا ہوا اللہ اعلم لوگوں کو کس نے اطلاع دی۔ ان کے بھائی ابراہیم مع اپنے اعزاز کی جماعت کے تشریف لائے اور اپنے یہاں کا ایک نزاعی مقدمہ کے مدت سے نافیصل پڑا تھا پیش کیا میں نے حکم شرعی عرض کیا محمد اللہ باتوں ہی باتوں میں باہم فیصلہ ہو گیا۔ ربیع الاول شریف کا ہلال ہم کو بیہیں ہوا یہاں سے اونٹ کرایہ کئے گئے نمازِ عصر پڑھ کر سوار ہونا تھا تمام اسباب قلعہ کے سامنے سڑک پر نکال کر کھا تھا گفتگی کے وقت اونٹوں کا قافلہ تھا ہم لوگ سوار ہو گئے اور اس باب وہیں سڑک پر پڑا رہ گیا جب منزل پر پہنچے اب نہ کپڑے ہیں نہ برتن نہ گھی ہے۔ ”**وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ**“

یہ پانچ منزلیں ساتھیوں کے برتاؤ اور منازل پر وقایو فتا خرید حجاج سے گزری جتنے دن محمد اللہ تعالیٰ خاک بوس آستان جنت نشاں ہوئے۔ الحمد لله رب العالمين

راہ میں جب منزل پیر شیخ پر پہنچے ہیں منزل چند میل باقی تھی اور وقت فجر تھوڑا جما لوں نے منزل ہی پر رکھنا چاہا اور جب تک وقت نماز میں نہ رہتا میں اور میرے رفقاء اتر پڑے قافلہ چلا گیا کرچ کا ڈول پاس تھاری نہیں اور کنوں گہرا عماء میں باندھ کر پانی بھرا وضو کیا۔ محمد اللہ تعالیٰ نماز ہو گئی اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ طول مرض سے ضعف شدید ہے اتنے میل پیادہ کیونکر چلنا ہو گامنہ پھیر کر دیکھا تو ایک جمال محض اجنبی اپنا اونٹ لئے میرے انتظار میں کھرا ہے حمد الہی بجالا یا اور اس پر سوار ہوا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کیسے لائے؟ کہا ہمیں شیخ حسین نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ کی خدمت میں کمی نہ کرنا کچھ دور آگے چلے تھے کہ میرا اپنا جمال اونٹ لئے کھرا ہے اس سے پوچھا کہا جب قافلے کے جمال نہ ٹھہرے میں نے کہا شیخ کو تکلیف ہو گی۔ قافلہ میں سے اونٹ کھول کرو اپس لایا یہ سب میری سرکار کرم کی وصیتیں ہیں۔

صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علیہ وعلیٰ عترتہ قدر رافتہ ورحمة

ورنہ کہاں یہ فقیر اور کہاں سردار رانی شیخ حسین جن سے جان نہ پہچان اور کہاں وحشی مزاج جمال اور ان کی یہ خارق العادات روشنیں۔ سرکارِ اعظم میں حاضری کے دن بدن کے کپڑے میلے ہو گئے تھے اور کپڑے رانی میں چھوٹ گئے تھے اور ایک یا دو منزل پہلے شب کو ایک کہیں راستہ میں نکل گیا یہاں عربی وضع کالباس اور جوتا خرید کر پہنا اور یوں مواجهہ القدس کی حاضری نصیب ہوئی یہ بھی سرکار ہی طرف سے تھا کہ اس لباس میں بلانا چاہا۔

دوسرے دن رانی سے ایک بدھی پہنچا اونٹ پر سوار اور ہمارا تمام سامان کر چلتے وقت قلعہ کے سامنے چھوٹ گیا تھا اس بار اس نے شیخ حسین کا رقعہ لا کر دیا کہ آپ کا یہ اسہاب رہ گیا تھار وانہ کرتا ہوں میں ہر چند ان بدھی صاحب کو آتے جاتے دس منزلوں کی محنت کا نذر انہے دیتا رہا مگر انہوں نے نہ لیا اور کہا ہمیں شیخ حسین نے تاکید فرمادی تھی کہ شیخ سے کچھ نہ لیں۔

یہاں کے حضراتِ کرام کو حضراتِ مکہ معظمہ سے زیادہ اپنے اوپر مہربان پایا۔ محمد اللہ تعالیٰ اکتبیں روز کی حاضری نصیب ہوئی بارہ ہویں شریف کی مجلس مبارک یہیں ہوئی صبح سے عشاء تک اسی طرح علمائے عظام کا ہجوم رہتا۔ بیرون باب مجیدی مولانا کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلیذ حضرت مولانا عبد الحق مہاجرالہ آبادی رہتے تھے ان کے خلوص کی کوئی حد نہیں۔ جزا اللہ خیراً کشیرا

یہاں بھی اہل علم نے "الدولۃ المکیۃ نقیۃ" لیں ایک نقل باخصوص مولانا کریم اللہ نے مزید تقریبات کے لئے اپنے پاس رکھی میرے چلے آنے کے بعد بھی مصر و شام و بغداد مقدس وغیرہ کے علماء جو موسم میں خاک بوس آستانہ قدس ہوتے جن کا ذرا بھی زیادہ قیام دیکھتے اور موقع پاتے ان کے سامنے کتاب پیش کرتے اور تقریظیں لیتے اور بصیرت جذری مجھے بھیجتے رہتے۔

علمائے کرام نے یہاں بھی فقیر سے سندیں لیں اور اجازتیں لیں خصوصاً شیخ الدلائل حضرت مولانا سید محمد سعید مغربی کے الطاف کی توحیدی نہ تھی اس فقیر سے خطاب میں یا سیدی فرماتے میں شرمندہ ہوتا۔ ایک بار میں نے عرض کی حضرت سید تو آپ ہیں فرمایا اللہ سید تم ہو میں نے عرض کی میں سیدوں کا غلام ہوں فرمایا یوں بھی تو سید ہوئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں "مولیٰ القوم منهم" قوم کا غلام آزاد شدہ انہیں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ساداتِ کرام کی پچی غلامی اور ان کے صدقے میں آفات دنیا و عذاب قبر عذاب حشر سے کامل آزادی عطا فرمائے۔ آمین

یوں ہی مولانا حضرت سید عباس رضوان و مولانا سید مامون بریلوی و مولانا سید احمد جزاً ری و مولانا شیخ ابراہیم خربوطی و مفتی حفیہ مولانا تاج الدین الیاس و مفتی حفیہ سابقًا مولانا عثمان غنی بن عبد السلام داغستانی وغیرہم حضرات کے کرم بھولنے کے نہیں۔ ان مولانا داغستانی سے قباشریف میں ملاقات ہوئی تھی کہ وہیں اٹھ گئے تھے۔ مکہ معظمه کی طرح زیادہ حسام الحرمین کی تقدیمات تھیں جو محمد اللہ تعالیٰ بہت خیر و خوبی کے ساتھ ہوئی زیادہ زمانہ قیام انہیں میں گزر گیا کہ ہر صاحب پوری کتاب معد تقریبات مکہ معظمه دیکھتے کئی کئی روز میں تقریظ لکھ کر دیتے۔ مفتی شافعیہ حضرت سید احمد برزنجی نے حسام الحرمین پر چند ورق کی تقریظ لکھی اور فرمایا اس کتاب کی تائید میں اسے سارا مستقل رسالہ کر کے شائع کرنا ایسا ہی کیا گیا۔ حسام الحرمین کا کام پورا ہونے کے بعد "الدولۃ المکیۃ" تقریبات کا خیال ہوا دونوں حضرات مفتی حفیہ نے مدینہ طیبہ اور قباشریف میں تقریظیں تحریر فرمائیں تیسری باری مفتی شافعیہ کی آئی۔ یہ آنکھوں سے معزود ہو گئے تھے یہ ٹھہری کہ ان کے دام سید عبد اللہ صاحب کے مکان پر اس کتاب کے سنتے کی مجلس ہو عشاء کہ وہاں اول وقت ہوتی ہے پڑھ کر بیٹھے میں نے کتاب سنانی شروع کی بعض جگہ مفتی صاحب کو شکوہ ہوئے میری غلطی کی میں نے حسب عادت

جرات کے ساتھ مسکت جواب دیئے جو مفتی صاحب کو اپنی عظمت شان کے سبب ناگوار ہوئے جا بجا ان کا ذکر کا میں نے "الفیوض المکیۃ حاشیہ الدولۃ المکیۃ" کر دیا ہے۔ بارہ بجے جلسہ ختم ہوا اور مفتی صاحب کے قلب میں جو ان جوابوں کا غبار رہا مجھے بعد کو معلوم ہوا اس وقت اگر اطلاع ہوتی میں معدرنٹ کر لیتا۔ ایک رات ان کے شاگرد شیخ

عبدال قادر طرابی شبلی کے مدرس ہیں فقیر کے پاس آئے اور بعض مسائل میں کچھا بحث نہ لگے خامد رضا خاں نے انہیں جواب دیئے جن کا وہ جواب نہ دے سکے اور وہ بھی سینہ میں غبار لے کر اٹھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا جس کی میں نے کوئی پروانہ نہ کی انصاف پسند تو اس کے ممنون ہوتے ہیں جو انہیں صواب کی راہ بتائے نہ یہ کہ بات سمجھ لیں جواب نہ دے سکیں اور بتانے سے رنجیدہ ہوں اور فقیر کو متواتر ناساز یوں کے بعد مکہ معظمه میں جو کئی مہینے گزرے واللہ عالم۔ وہ کیا بات تھی جس نے حضرات کرام مدینہ طیبہ کو اس ذرہ بے مقدار کا مشتاق بنارکھا تھا یہاں تک کہ مولانا کریم اللہ صاحب فرماتے تھے کہ علماء تو علماء اہل بازار تک کو تیراشتیاق اور یہ جملہ فرمایا کہ ہم سالہا سال سے سرکار میں مقیم ہیں اطراف و آفاق سے علماء آتے ہیں واللہ یہ لفظ تھا کہ جو یہاں چلتے چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں پوچھتا اور تمہارے پاس علماء کا ہجوم ہے۔ میں نے عرض کی میرے سرکار کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم

سگان پرونلو چنان پرووند کریمان کہ در قضل بالا ترند

اپنے کرم کا جب وہ صدقہ نکالتے ہیں ہم کتوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں۔

ایامِ اقامت سرکارِ اعظم میں صرف ایک بار مسجد قبا شریف کو گیا اور ایک بار زیارتِ حضرت شہید الشہداء چڑھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہوا باقی سرکارِ اقدس ہی کی حاضری رہی سرکار کریم ہیں اپنے کرم سے قبول فرمائیں اور خیریت ظاہر و باطن کے ساتھ پھر بلا کمیں۔

ہم کو مشکل ہے انہیں آسان ہے

رخصت کے وقت قافلے کے اوپنٹ آگئے ہیں پاپر کاب ہوں اس وقت تک علماء کو اجازت نامے لکھ کر دیئے وہ سب تو "الاجازات المتنیہ" میں طبع ہو گئے اور یہاں آنے کے بعد دونوں حرم محترم سے درخواستیں آیا کیں اور اجازت نامے لکھ کر گئے یہ درج رسالہ نہیں چلتے وقت حضرات مدینہ کریمہ نے پیر دن شہر دور تک مشایعت فرمائی اب مجھ میں طاقت تھی ان کی معادوت تک میں بھی پیادہ ہی رہا۔ اوپنٹ جدہ کے لئے کئے تھے اب موسم سخت گرمی کا آگیا تھا اور پارہ منزلیں منزل پر ظہر کی نماز کر ٹھیک زوال ہوتے ہی پڑھتا تھا اور معاً قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ سر پر آفتاب اور پاؤں نیچے گرم ریت یا پتھر اللہ تعالیٰ مولوی مذیر احمد کا بھلا کرے فرسوں میں تو مجبور تھے کہ خود بھی شریک جماعت ہوتے مگر جب میں سنتوں کی نیت باندھتا چھتری لے کر سایہ کرتے جب پہلی رکعت کے سجدے میں جاتا پاؤں نے نیچے اپنا عمامہ رکھ دیتے کہ باقی رکعتوں میں پاؤں نہ جلیں ابتدا میں یوں نہ کر سکتے تھے کہ میں عمامہ رکھنا درکار نماز میں چھتری لگانے پر بھی ہرگز

راضی نہ ہوتا انہوں نے اور حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس فر میں بلا طمع بلا معاوضہ محض اللہ و رسول ﷺ کے لئے جیسے آرام دیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم دنیا و آخرت میں ان صاحبوں کو عطا فرمائے آمین۔

جده پہنچ کر جہاز تیار ملائیمی کے لکٹ بٹ رہے تھے خریدے اور روانہ ہوئے۔ جب عدن پہنچے معلوم ہوا کہ جہاز والا راضی تھا وہو کہ دیا۔ عدن پہنچ کر اعلان کیا کہ جہاز کراچی جائے گا ہم لوگوں نے قصد کر لیا کہ اتر لیں اور بیمی جانے والے جہاز میں سوار ہوں اتنے میں انگریز ڈاکٹر آیا اور اس سے کہا بیمی جانے والوں کو قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ ہم نے کہا اس مصیبت کو کون جھیلے اس سے کراچی ہی بھلا راستہ میں طوفان آیا اور ایسا سخت کہ جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا۔ سخت ہولناک آواز پیدا ہوئی مگر دعاوں کی برکت کہ مولیٰ تعالیٰ نے ہر طرح امان رکھا۔

جب کراچی پہنچے ہیں ہمارے پاس صرف دور پے باقی تھے اور اس زمانے تک وہاں کسی سے تعارف نہ تھا جہاز کنارے کے قریب ہی لگا اور عین ساحل پر چونگی کی چوکی جس پر انگریز کوئی گورا نوکرا سباب کیشیر یہاں محصول تک دینے کو نہیں ہر چیز کی تعلیم و ارشاد فرمانے والے پر بے شمار درود و دوسلام ان کی ارشاد فرمائی ہوئی دعا پڑھی وہ گورا آیا اور سباب دیکھ کر بارہ آنے محصول کہا ہم نے شکر الہی کیا اور بارہ آنے دے دیئے۔ چند منٹ بعد وہ پھر واپس آیا اور سب صندوق کھلوا کر اندر سے دیکھے اور پھر بارہ آنے کہے اور سید دے کر چلا گیا اب سوار و پیہے باقی رہا اس میں سے مخلطے بھائی مرحوم مولوی حسن رضا خاں کو تار دیا کہ دوسرو پیہے بھیجو۔ یہاں وہ تار مشتبہ ٹھہرا کر بیمی سے آتا کراچی سے کیسا آیا؟ بارہ روپ پہنچ گئے۔ بیمی کے احباب وہاں لے جانے پر مضر ہوئے وہاں جانا پڑا۔ مولوی حکیم عبدالرجیم صاحب وغیرہ احباب احمد آباد کو اطلاع ہوئی آدمی بھیجے باصر احمد آباد لے گئے۔ سواریوں کو بیمی سے محمد رضا خاں و احمد رضا خاں کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ میں ہندوستان میں اترنے سے ایک مہینے بعد مکان پر پہنچا۔ وہابیہ خذلتم اللہ تعالیٰ کے بفضلہ تعالیٰ جب شدید ذلتیں اور ناکامیاں ہوئیں "المرجفون فی المدینہ" اور اشت سے یہاں یہاڑا کھلی تھی کہ معاذ اللہ فلاں قید ہو گیا۔ بیمی آکر یہ خبر سنی احباب نے مجلس بیان منعقد کی اور چاہا کہ اس کی نسبت کچھ کہہ دیا جائے۔ واحد قہار نے ان کا کذب خود ہی سب پر روشن فرمادیا تھا مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی ہاں اتنا ہوا کہ آیتہ کریمہ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُّحَّا مُّبِينًا" یا ان کیا اور اس میں فتح کہ مکرمہ اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی حدیث ذکر کی اس میں کہا حضور اکرم ﷺ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معمظمہ بھیجا یہاں انہیں دریگی کافروں نے اڑا دیا کہ وہ مکہ میں قید کرنے گئے۔

میرے آنے سے پہلے ہی اطراف سے لوگوں نے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو استفسار و اتفاقات کے خطوط لکھے جس کے جواب انہوں نے وہ دیئے کہ سنیوں کا دل باغ باغ ہو گیا اور ہابیوں کا کلیج باغ باغ والحمد للہ رب العالمین۔

ان میں سے بعض جواب جو میرے دیکھنے میں آئے جن میں فرمایا ہے کہ یہ خبیث کذابوں کا کذب خبیث ہے اس کو تو مکہ معظمہ میں وہ اعزاز ملا جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہابیہ کی تو کیا شکایت کو وہ پورے اعداء ہیں اور کیوں نہ میرے دشمن ہوں کہ میرے مالک و مولیٰ ﷺ کے دشمن ہیں ان کے افڑاؤں نے بعض جاہل کچھ سنیوں کو بھی میرے مخالف کر دیا تھا یہ بہتان لگا کر کہ یہ معاذ اللہ حضرت شیخ مجدد کو کافر کرتا ہے اور جب مکہ معظمہ میں علم غیب کا مسئلہ بفضلہ تعالیٰ باحسن و جوہ روشن ہو گیا علم الہی اور علمی نبوی کا غیر تناہی فرق میں نے ظاہر کر دیا تو اب یہ جوڑی کہ عیاذ باللہ یہ قدرت نبوی کو قدرتِ الہی کے برادر کرتا ہے۔ کچھنا سمجھ لوگ آئیہ کریمہ ”**إِنَّمَا أَنْهَاكُمُ الْجُنُونُ إِنَّمَا أَنْجَأَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَقَبِيَّنُو**“ آن تُصِيبُوا قَوْمًا بِحَجَاهَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ“ عمل نہ کرنے والے ان کے داؤں میں آگئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک ہندی صاحب شیخ الحرم عنان پاشا کے یہاں کچھ دخیل تھے ایک مدرسہ کے نام سے ہندوستان وغیرہ سے چندہ منگاتے۔ یہ بھی انہیں کذابوں کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ میں ابھی مکہ معظمہ ہی میں تھا یہاں جو فتح و ظفر مولیٰ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور پھر میرے عزم حاضری سر کارِ اعظم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی ان صاحب نے اپنے زعم پر کہ مجازی حاکم شہر کے یہاں رسائی ہے یہ لفظ فرمائے کہ وہاں تو اس نے اپنا سکہ جمع لیا آنے دو یہاں آتے ہی قید کراوں گا۔ مولیٰ عزوجل کی شان میری سرکار سے ان کو یہ جواب ملا کہ میں ابھی مکہ معظمہ میں ہی ہوں ان کی نسبت وہو کے سے چندہ منگانے کا دعویٰ ہوا اور جیل بھیج دیئے گئے۔ جب میں حاضر ہوا ہوں وہ میعاد کاٹ کر آچکے تھے مسجدِ کریم میں مجھ سے ملے اور فرمایا میں تھائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا علماء کرام کی تشریف آوری کا ہجوم آپ دیکھتے ہیں مجھے تھائی نصف شب کو ملتی ہے کہا میں اسی وقت آؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت بندش ہوتی ہے کہا میری بندش نہ ہو گی تشریف لائیے اور کلماتِ استمالت و استغفار کے فرمائے۔ میں نے معاف کیا اور میرے دل میں بحمد اللہ اس کا کچھ غبار نہ تھا پھر ہندوستان تشریف لا کر بھی مجھ سے ملے اظہارِ نام کی ضرورت نہیں۔

چوبیاز آمدی ماجرا در نوشت

یہ تمام وقائع ایسے نہ تھے کہ ان کو میں اپنی زبان سے کہتا ہر اہیوں کو توفیق ہوتی اور آتے جاتے اور ایام قیام ہر دوسرکار کے واقعات روزانہ تاریخ وار قلمبند کرتے تو اللہ رسول کی بے شمار نعمتوں کی عمر یادگار ہوتی ان سے رہ گیا اور مجھے

بہت کچھ ہو ہو گیا جو یاد آیا بیان کیا نیت کو اللہ عز و جل جانتا ہے

قال تبارك وتعالى ”وَ أَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْتُكَ يَا زَهْرَةَ الْفَجْحَىٰ، آيَتٍ (١٠)“

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

یہ برکات ہیں ان دعاوں کی جو حضور اکرم ﷺ نے تعلیم فرمائی۔

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه الكريم وآلـه وصحبـه اجمعـين

فائدہ

اس روائید پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی حج کے متعلق نعمت بالخصوص نعمت حاضری بارگاہ بھیں جائیں اور رنگ عشقی کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

نحو

حدائق بخشش کی دیگر حج کی نعمتیں دوسرے ایڈیشن میں ساتھ ملائی جائیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (اویسی غفرلہ)

٧٩

اس نعمت شریف میں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ اپنے حج مبارک بار دوم کے کوائف عشقی اور علمی میں بیان فرماتے ہیں۔ حج دوم کے کوائف تفصیلی تو آپ کے ملفوظات مبارکہ میں ہیں ہم اجمالی خاکہ یہاں عرض کرتے ہیں تاکہ اشعار سمجھنے میں کچھ آسانی ہو۔

دوسرا اجمالی حج

دوسری دفعہ آپ ۱۳۲۳ھ میں حج و زیارت کے لئے گئے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ پہنچنے کے قبل ہی آپ کے خداداد علم و فضل کا شہرہ وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ امام بریلوی مدینہ طیبہ کی حاضری کے لئے بیتاب تھے لیکن شدید علاالت سفر میں منع تھی ادھر مدینہ منورہ کے علمائے کرام ایک نظر آپ کی زیارت حاصل کرنے کو بے قرار تھے شیخ الدلائل حضرت مولانا شاہ عبدالحق مہاجر کی علیہ الرحمۃ کے مخلص شاگرد حضرت مولانا کریم اللہ مہاجر کی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ ہم سالہا سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں اطراف و آفاق سے علماء آتے ہیں اور جوتیاں پھٹاتے چلتے جاتے ہیں کوئی بات نہیں پوچھتا لیکن امام بریلوی کے پہنچنے سے پہلے ہی علماء تو علماء اہل بازار تک آپ کی زیارت و ملاقات کے مشتاق تھے چنانچہ جب مدینہ میں آپ کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہر طرف پھیلی تو صحیح سے عشاء تک آپ کے پاس

علماء مدینہ کا ہجوم رہتا تھا۔ ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیڑ بارہ بجے رات سے پہلے ہنئے کا نام نہیں لیتی تھی۔ (مذکرہ نوری صفحہ ۷)

آخری شعر میں انتہائی افساری اور بے کسی کامظاہرہ کرتے ہیں

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا
تجھ سے کتے ہزار پھر تے ہیں

یہ غزل مواجهہ شریف میں پڑھ کر ادب و شوق کی تصویر بن کر کھڑے ہو گئے کہ قسمت بیدار ہوئی دل کی آرز و مراد کو پہنچی اور حضور رَفِیع صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖۤہٖۤسَلَّمَ کی زیارت سے بیداری میں شرف ہوئے سجان اللہ عشق رسول ﷺ کا کیا صلہ ملا۔ اسی جیسا واقعہ پچھٹی صدی کے ولی کامل سیدنا احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں رومنا ہوا۔ ۵۵۵ھ میں آپ برائے حج بیت اللہ شریف لے گئے اور بعد حج پیادہ پاچلتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے بعد نمازِ عصر حرم شریف نبی کریم ﷺ میں داخل ہوئے اس وقت توے ہزار سے زیادہ زوار حرم مبارک کے اطراف جمع تھے۔ حضرت مదوہ قریب ہوئے تحفہ سلام پیش کیا اور فرمایا السلام علیکم یا جدی، جواب آیا و علیکم السلام یا ولدی۔ حاضرین نے آواز مبارک ساعت کی آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی آپ نے نہایت عقیدت و انکساری کے ساتھ دست اقدس طلب فرمایا اس وقت قبر مبارک شق ہوئی دست مججزہ نما مہر پر ضیاء جلوہ آرائی انجمن عالم ہوا فوراً حضرت نے دست مبارک کا بوس دے کر فوائد ظاہری و باطنی حاصل کئے۔

حاضری بہیں جا وصل اول رنگ علمی حضور جان نو

حل لغات

بکیں (فارسی) بہت بہتر، سب سے اعلیٰ تھے۔ رنگ، رنگت، ڈھنگ، حال، مجھن، بہار، چرچا، مشعل، دانش۔

حضور چان نو، پیاسی نعت کا (قصیدہ) کا نام ہے۔

فائدة

اس نعت کا نام خود امام احمد رضا قدس سرہ نے قصیدہ حضور جان نور کھا۔ (ملفوظ جلد ۲ صفحہ ۳۳)

شکرِ خدا آج گھری اس سفر کی ہے
جس پر شارِ جان فلاح وظفر کی ہے

فائدة

یہ ۱۳۲۷ھ سفر میں طبیین کے موقع پر کمی تھی اس میں سفر کی کیفیت یوں بیان فرمائی۔

گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے
ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے

حل لغات

کلفت، تکلیف، سختی، رنج۔ فلاخ، رستگاری، فتح مندی، نیکی، عزیمت، قلبی، حقدار اور ارادہ پختہ۔

شرح

حر میں طبیین کے مسافر کو معلوم ہے کہ گریوں کے موسم میں یہاں سخت گرمی ہوتی ہے عموماً بعض لوگ اس کی شدت سے بخار میں بٹلا ہو جاتے ہیں بالخصوص نفس طبع حضرات کے لئے ایسی گرمی برداشت سے باہر ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت کی نفاست طبع بھی مشہور ہے آپ بھی بخار وغیرہ میں بٹلا ہوئے آپ نے سفر کی تکلیف بیان کر کے پھر تسلی دلائی کرائیے سفر میں اگر تکالیف و شدائی کا سامنا ہے لیکن بجائے پریشان ہونے کے خوش ہونا چاہیے کہ خوش قسمتی سے یہ سفر نصیب ہوا تو پھر بتول خواجہ غلام فرید قدس سرہ کہنا چاہیے

یجھے هك هك ڈکھڑے توں سو سکھڑے گھول گھمائ

یعنی ایسے ایک ایک ڈکھ پر بے شمار آرام و قرار قربان کرو

اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اس دوران جو مصائب و مشکلات کا سامنا ہوا اس کی تفصیل گذشتہ اور اق میں مفصل عرض کی گئی ہیں۔

کس خاک کی پاک کی تو بنی خاک پاشقاء
تجھ کو قسم جناب مسیح کے سر کی ہے

شرح

اے خاکِ مدینہ بتا کہ تجھے کب سے خاکِ شفاء بنایا گیا اس وقت سے ناجب کہ تجھ پر رسول اکرم ﷺ کے قدم مبارک لگے ہیں اب تو خود ہی بتا کہ تو امراض کی شفاء کب سے بنی حالانکہ اس سے قبل تجھے یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم میں تبیح ہے کہ وہ اگرچہ امراض کو شفاء بخشتے تھے لیکن ہمارے آقا مولیٰ ﷺ کی شان یہ ہے کہ ان کے قدم مبارک کی مٹی شفاء ہے۔

آبِ حیات روح ہے زرقا کی بوند بوند
اسکیر اعظم مس دل خاک در کی ہے

حل لغات

مس، تابنا۔ اسکیر، کیمیا، پارس، وہ دوا جو ہر مرض کے لئے مفید ہو، بہت مفید۔

شرح

مدینہ طیبہ کی ایک نہر کا نام زرقا ہے فرمایا کہ اس کی ایک ایک بوند ہمارے لئے تو آبِ حیات ہے اور اس مقدس شہر کی خاک دل کی سیاہی کو ہٹانے والی اور اسے کندن بنانے والی ہے لیکن بقدمتوں کا حال عجیب ہے جو سب کو معلوم ہے۔

ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے
حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے

شرح

جب حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو اس وقت سفر کے حالات بظاہر ناساز گار تھے لیکن عشق کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسان تر ہو جاتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ بحمدہ تعالیٰ ہم تو آرام سے پہنچ گئے لیکن جن کا جی مدینہ طیبہ کی حاضری سے گھبرا تا ہے ان کے لئے خوف و خطر کے سوا کچھ نہیں وہ اس وقت کی بات ہے لیکن آج مذکورین کچھ دوسرے رنگ میں مدینہ کی حاضری سے دوسروں کو ڈراتے ہیں اور طرح طرح کے حیله بناتے ہیں۔

سُنْهَاهٌ میں فقیر کی دوسری حاضری کے موقعہ پر فقیر کے ایک مصاحب کا غیر مقلد و ہابی ہم سفر ہوا جب بقانون

گورنمنٹ پاکستان حاج مدنیہ طیبہ چالیس نمازوں کی ادائیگی کے لئے عازم ہوئے تو غیر مقلد و ہابی نے کھایارو پچاس ہزار نماز کے ثواب کو جاری ہے ہو جب کہ معلمہ میں ایک لاکھ ثواب ملتا ہے دوسرے رفقاء تو خاموش رہے فقیر کے مصاحب نے اسے کہا کہ میاں ہم ان کے حضور جاری ہے ہیں جن کے صدقے لاکھ ثواب ملا۔ لاکھ بسر و چشم لیکن ہم تو لاکھی کی خدمت میں جاری ہے ہیں غیر مقلدین ابن تیمیہ کے مقلد ہیں درحقیقت بات یہ ہے کنجدی اور وہابی غیر مقلدین ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اور لاکھ اور پچاس ہزار غیروں کا صرف بہانہ ہے ہندو پاک میں محل کرنیں کہتے وہ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں یا صاف کہیں کروضہ اقدس (گنبد خضراء) کی حاضری ہے لیکن اپنی تصنیفوں اور رسالوں میں واضح طور پر اور کھلا کھتھے ہیں اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ تحریر ملاحظہ ہو!

جمعیت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ "الاسلام" لاہور نے ۱۹ اگست کی اشاعت میں لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور آپ کے شاگرد علامہ ابن قیم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر اقدس کی زیارت کی نیت سے جانا حرام ہے۔ مدینہ میں رہنے والے مقامی یا جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کے لئے جاتے ہیں وہ اگر وہاں چاہیں تو زیارت روضہ رسول ﷺ کر سکتے ہیں۔

انشیاد

کس قدر شقاوت و سنگدلی اور خبث باطن کا مظاہرہ ہے کہ زیارت کے لئے سفر کر کے جانا تو ویسے ہی حرام و گناہ
ہے اور جو وہاں مقامی ہے یا مسجد نبوی کی نیت سے جاتا ہے اس کے لئے بھی از راہِ عشق و محبت زیارتِ اقدس کی کوئی
شرعی ایمانی روحانی و اخلاقی اہمیت و ضرورت نہیں بس ان کے اپنے خیال پر منحصر ہے کہ اگر چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں
ور نہ نہیں والیعاذ باللہ کسی نے کیا خوب جواب فرمایا ہے

ساری خدائی ایک طرف نجدی وہی ایک طرف

الشـاه

ابن تیمیہ اور ان کے معتقدین غیر مقلدین اور وہابی نجدی قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ **وَلَوْ**
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بار بار مع تفسیر و تفصیل لکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 ہے جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔

لئے ہیں مارے جاتے ہیں یونہیں سنا کئے
ہر بار دی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے

شرح

دوسرے لوگ اس دور میں لوٹے اور مارے جاتے ہیں جس کی خبر ہم نے، بہت سے لوگوں کے متعلق سنی لیکن ہمیں اتنا چین اور سکون نصیب ہوا کہ جس پر گھر پیلو آرام اور قرار بھی رشک کرتا ہے۔

آزمودہ تجربہ

نقیر کو بارہا طیبہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی جو نبی گھر سے تاجده پھر جدہ سے حرم کمہ معظمه حاضری ہوئی سفر کی لکفت کے ساتھ عمرہ کی سعادت پر تھکان کا بھر پور حملہ ہوا تو اگرچہ کمہ معظمه میں احباب بکثرت ہیں ہر طرح کی خدمات سرانجام دیتے ہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے یہاں تک کہ گھر سے تحرم گاڑی کا انتظام کرتے ہیں لیکن جب تک طیبہ پاک حاضری نہیں ہوتی تھکان وغیرہ کے آثار محسوس ہوتے ہیں لیکن جو نبی مدینہ پاک رکھا تمام لکفیقیں دور یوں محسوس ہوتا ہے کہ راحت و آرام نے ہمارے قدم چوم لئے ہیں۔

نقیر زاہر حرم سے ایک خصوصی گزارش کرتا ہے

ابہ زائر حرم

دور حاضرہ میں ہم حرمین طیبین کی زیارت اور حج کی سعادت اور عمرہ کے لئے بار بار آئیں تو ہمیں سفر کی کوفت کے بجائے راحت و سرور محسوس ہوتا ہے ہم وطن سے ہوائی جہاز پر جا رہا ہو نچے پھر مکہ تا مدینہ بلکہ جدہ تا مکہ تا مدینہ شاہراہ جو بنی ہے یا اپنی مثال آپ ہے ڈبل روڈ ہے ہر روڈ پر بیک وقت چار گاڑیاں چلتی ہیں اس طرح آٹھ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں درمیان میں جالی دار وقفہ (باز) ہے تا کہ جانور سڑک پر نہ آسکیں۔ مجموعی طور پر شاہراہ تین سوفٹ چوڑی ہے رفتار کم از کم ستر زیادہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی اجازت ہے مکہ تا مدینہ دونوں طرف سیاہ رنگ کے بخرا پہاڑ ہیں سبزہ کا نام نہیں طویل و عریض مگر خشک وادیاں ہیں صحرائی علاقہ ہے بلکہ خوف آتا ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں میں سوچتا رہا کہ ڈیڑھ ہزار برس قبل جب حضور نے مکہ سے مدینہ بھرت کی تو ان ہی راستوں سے گزرے ہوں گے اور فتح مکہ کے وقت بھی قافیہ یہیں سے کن حالات میں گزرے ہوں گے کتنے مشکل تھے وہ سفر اور کتنا آسان ہے یہ زمانہ۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے سبب آج سعودی عرب میں دولت کی ریل پیل ہے پیرس، لندن، نیویارک اب جدید سعودی

عرب کے برادر پرانے لگتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان چار یا پانچ گھنٹے کا سفر ہے ارکنڈیشنڈ بسیں چلتی ہیں سفر آسان ہے بلکہ جدہ سے تامدینہ طیبہ بھی ہوائی جہاز کے ذریعے آ جاسکتے ہیں لیکن اس کے باوجود زائرین حرم و حجاج کہتے ہیں ہائے سفر میں ہم مر گئے یہ ہوا وہ ہو فقیر ذرا چند سال پہلے سفر کے چند نمونے عرض کر دے تاکہ شکر انسان موجود نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو شکوہ تو نہ کرے شاید اس کی یہاں شکری اسے لے ڈوبے۔ (معاذ اللہ)

ہمارا سفر شیرین و شکر

ہم لوگ نہایت آرام دہ اریبسوں میں چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں یورپ اور امریکہ آتے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ آتے جاتے سلسلہ سفر منقطع کر کے ایک دن میں عمرہ کر لیتے ہیں۔ اگلے وقوں میں خانہ خدا کی زیارت کے لئے جان جو کھوں کا سفر کر کے آنے والے جب صحیح حرم میں قدم رکھتے ہوں گے تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اس کا کچھ نقشہ میں ایک قدیم سفر نامہ سے یہاں نقل کر رہا ہوں۔

پرانے دور کے ایک نواب کے سفر کا حال

یہ ۱۸۳۹ء کی بات ہے دہلی کے رئیس نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ڈیڑھ سال تک سفر کی ناقابل برداشت صعبوتوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچتا ان کے دل پر کیا گز ری وہ لکھتے ہیں کعبہ اللہ کے طلوے نے تمام غم دور کر دیئے ہوئے کو جھرا سود چومنے کی سعادت نصیب ہوئی پیشانی عقبہ عالیہ پر گھنے سے منور ہوئی ہاتھوں کو استلام رکن کا شرف حاصل ہوا آپ زمزم نے شراب طہور کی بشارت دی طواف بیت اللہ نے آتشیں دوزخ سے نجات کی تو یہ دی کعبہ شریف کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہام کر گویا دامن امن امید تھام لیا۔ مکہ معظمه کے متعلق وہ لکھتے ہیں

مکہ معظمه بڑا شہر ہے اس میں بڑی آبادی اور رونق ہے یہاں سے اچھا اور بڑا بازار صفار مروہ ہے اس میں دنیا جہان کا سامان اور کپڑا ملتا ہے بمحاب اللہ باوجود دیکھ کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو یہاں موجود نہ ہو یہ بات سیدنا ابراہیم کی دعا ”وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْثَّمَرَاتِ“ ہے مدینہ منورہ اونٹوں پر جاتے ہوئے رانخ کے مقام پر یہ لوگ بادبوم میں گھر گئے اور ان کے بہت سے ساتھی جو ہولناک سمندری مصائب سے نجات کر آگئے تھے یہاں ساتھ چھوڑ گئے بہت سے رانخ دفن ہوئے اور کچھ بیمار اور کمزور اگلے پراؤ مستورہ پہنچتے پہنچتے جنت کو سدھا ر گئے۔ نواب صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک عاشق رسول باؤز بلند یہ شعر الاپ رہا تھا

آقریں باد بریں ہمت مردانہ تو

شکر اللہ کی نمردیم و سیدیم بلوست

خدا کا شکر ہے کہ ہم (رستے میں) مرننیں گئے اور دوست کے پاس پہنچ گئے ہیں اس ہمت مردانہ پر آفریں۔

بدو اور ڈاکو اور پُر خطر راستے

آج کل ہم کہ معظلمہ سے مدینہ طیبہ تک پُرسکون طور پر پانچ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں بلکہ ایک ڈرائیور کا رتو ہمیں صرف تین گھنٹوں میں لے گیا اس کے باوجود کسی کی محتاجی اور نہ کسی کا خوف و خطر۔ فقیر ایک پرانے خبرنامہ کے اس کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے تا کہ یقین ہو۔

جنت کی سیر ہے ایک مسافر حرم لکھتا ہے کہ واضح ہو کہ بدھی بغیر مقرر سوار اور دوں کے چڑھانے سے انکار بلکہ محض عار کرتے ہیں اگرچہ کوئی اپنے قائم مقام بھی سوار کرے تا بھی پھر طریقہ ذیل سے سوار ہونا ممکن ہے۔

(۱) بدواں کو خلق سے داشدار کھنا (۲) کسی کام میں امداد۔ اگر یہ بھی محال ہو تو پہلے اس کو دور یا خواب میں خیال کر کے پھر اپنے یار کے اترنے سے سوار ہو جائے ثانی غالباً قافلہ درازی میں تین میل کے فاصلے پر چلتا ہے تو پھر مسکین کی جماعت سے جلدی اول شتر کی غایت پر پہنچ کر استراحت حاصل کرے تا کہ آخری شتر کی بلاغت ہو۔

قافلہ سے علیحدہ جان کی ہلاکت اس کا کچھ نمونہ عرض کروں گا ہمارے سرائیکی ایک شاعر نے ایک شعر میں اس کا اشارہ فرمایا کہ

بدو مر میندے هن کھیندے
هن پر مدینے ونج پجیندے

یعنی بدومارتے پہنچتے ہیں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ مار پیٹ بالآخر مدینہ پاک

منازل مابین المکہ والمدینۃ

نمبر شمار	ابتدائے منزل	غاریب منزل ثانی	تعداد میل	تعداد مسافت ساعت	تعريف منزل
۱	بلکہ معظلمہ سے	وادیٰ فاطمہ تک	۱۶	۸ گھنٹہ	تعريف وقوع ذیل ہے

یہ راستہ صاف ہے اور اس پر ہزاروں کے خلاف راستہ پر ایک مسجد سنگین اور چاہ شیریں آتے ہیں فاطمہ وادی ایک وسیع میدان جس میں نہر زبیدہ اور باغاتِ نخلستان منزل پر دو چار دو کان ہیں مگر اصل فاطمہ وادی ۲۰ میل شمال سے متصل ہے۔

تعريف منزل وقوع	وادیٰ فاطمہ سے	عسفان تک	۱۸ گھنٹہ	۲۶ میل
اس منزل کے درمیان ۵ میل تک راستہ پریشان کن ہے پھر عسفان تک چیل میدان ہے تقریباً ۱۵ میل کے فاصلہ پر ایک				

کنوں ہے اس کے آگے مریم بولی بے انتہا ہے شمال سے۔

☆ یہ دادی بی بی فاطمہ زہرہ کی طرف منسوب نہیں بلکہ یہ کوئی عورت تھی اس کا اصل نام مرتضیہ ان ہے جیسے احادیث مبارکہ میں آیا ہے ایسے ہی ذوالحکیمہ کے مقام پیر علی سیدنا علی المرتضی سے منسوب نہیں بلکہ یہ کوئی اور صاحب تھے۔ ایک جبل سیاہ ریل گاڑی کی طرح کا ہے عسفان تک ختم ہوتا ہے۔

وقوعہ

اس سفر کی ابتداء میں ایک عورت بنگالیہ باختہ حواس بے لباس تھی کئی لوگوں نے اس کے پاس جا کر دریافت کیا مگر اس کے اظہار سے کامل مفہوم نہ ہوا پھر اس کو شتر پر سوار کیا مگر نیچے کر گئی پھر دوسری دفعہ بھی گر کر مفقود اخبار ہو گئی۔ منزلین کے درمیان حبیب اللہ خیر پوری ایک جنگلی میدان پر بوجہ تھکان ۲ بجے رات کو سو گیا پھر صحیح نماز کے بعد چل دیا مگر ۸ بجے کو بھوک نے تنگ کیا اس وقت ہم پر پیشان بدرگاہ رازق جہان سوال کیا کہ خداوند ذوالجلال اپنی قدرت کمال سے انرا و لسکٹ بیشمار عنایت فرمائے۔

مزار میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

مکہ مکرمہ چھ سات میل ہے یہی وہ مقام ہے جہاں ام المؤمنین حضرت میمونہ کا مکان تھا اور وہ ہیں ان کا مزار بنا عسفان پہاڑوں کے درمیان چار پانچ دوکان ہیں کنوں میں چار صاحبہ کبار کے شیریں وار ہیں۔

۳	عسفان سے	بیر خلف یارف تک	۹ گھنٹہ	۱۸ میل	تعريف منزل و قوام
---	----------	-----------------	---------	--------	-------------------

یہ راستہ ابتداء میں ۳ میل پہاڑوں میں تنگ اور ثقلی ہے پھر آگے اچھا ہے۔

آن میں صرف تین چار دو کانیں ایک صاحب کشف ولی زبان کا مزار مغربی طرف سے ہے۔

گرد نواح باجرا کی کشمکش کارچاہ مشرق سے آدھ میل پر۔

۴	بیر خلف سے	قدیمه تک	۱۵ گھنٹہ	۳۰ میل	تعريف منزل و قوام
---	------------	----------	----------	--------	-------------------

یہ اول منزل ریگستانی سنگ ریزہ میں لاٹانی ہے چار میاں ایک چاہ راستہ کے قریب قدیم المعروف پہ گدیدہ ایک وسیع میدان میں چار پانچ دو کانیں خوش نظارہ سمندر کے کنارہ پر واقع ہیں۔

جنوب سے پانی شریں نہر گر کے قریب۔

۵	قدیمہ سے	راہک تک	۱۸ گھنٹہ	۳۶ میل	تعريف منزل و قوام
---	----------	---------	----------	--------	-------------------

یہ راہ صاف ہے مگر چوروں حرامیوں کا ظلم، قافلہ سمندری کنارہ کنارہ جاتا ہے اور سمندری چیزیں پاتا ہے، اکثر راستہ پر کئی جگہ تیل مٹی نمودار ہوتا ہے، شہر ابک قابلدید نخلستان گردناح بہت ہیں، ایک شیخ کی زیارت پر سعادت بھی ہے، پانی شہر کے شمال سے صاف شفاف ہے، اس شہر میں ایک بدوش (افسر) بھی رہتا ہے۔

وقوعہ

رابک کے درمیان دو سکینیوں کو حرامیوں نے پٹائی سے بہت نقصان پہنچا پھر آفرینیوں نے آکر چھوڑایا ایک بیچارے کی آنکھ نکل پڑی۔

۶	رابک لخ سے	بیر پر مستورہ	۱۵ گھنٹہ	۳۰ میل	تعريف منزل و قوم
---	------------	---------------	----------	--------	------------------

رابک لخ کے آگے ۲ راستے ہو جاتے ہیں فرق یہ ہے کہ دوائیں راستے سے پانی اور حرامیوں کی قلت ہے اور باعثیں سے صرف حرامیوں سے ذلت، اس راستہ پر لوبان لبی سبز تر ہے جس کو حضور اکرم ﷺ نے کھایا اس کا ذائقہ مانند بادام ہے، سمندری چیزیں عام ہیں، آگے سامنا ایک جبل طویل نظر آئے گا جو یہاں سے سولہ میل دور ہے، بیر مستورہ ریگستان میں ہے جس میں ایک دو دوکان اور گردناح مال مویشی بہت ہیں۔

۷	بیر شیخ سے	بیر حسانی	۸ گھنٹہ	۱۶ میل	تعريف منزل اور قوم
---	------------	-----------	---------	--------	--------------------

اول راستہ ریگستانی ہے پھر آگے آسانی ہو جاتی ہے یہاں بوٹی لوبانی بھی ہے، کنوں ہے بستی کلی لاثانی ہے جس میں دس بارہ دوکانیں اور بیٹھا پانی مگر حرامیوں سے پریشانی ہے۔

وقوعہ

ایک آدمی پانی لانے کو گیا تھا حرامی کو اس کی کمر سے ہمیانی جب نظر آئی تو چھرے سے کٹ کر مفرور ہو گیا صاحب نقد معدور ہو کر واپس آیا لہذا ایسے موقع پر معدور رہنا کہ ضروری ہے، ہمارے رفیقوں سے ایک بیمار بے طاقت رات کو قضاۓ حاجت کو گیانا گھماں ایک حرامی مارنے کو ہے مگر بیمار مذکور نے شور مچایا پھر پنجابیوں نے دوڑ کر پکڑ لیا معلم نے اسے چھوڑ دیا ایسے خطر سے پر حذر رہنا ضروری ہے۔

۸	بیر حسانی سے	بیر خلص تک	۱۵ گھنٹہ	۳۰ میل	وقوعہ تعريف منزل
---	--------------	------------	----------	--------	------------------

یہ راستہ پہاڑوں میں مانند دور ہے، یہاں لوبان بہت ہے، پانی عام طور پر ہے مگر حرامیوں کا جو روستم بہت ہے۔ بیر خلص پر ایک دوکان پانی درمیان ہے۔

وقوعہ

یہاں بندہ تھکان کی وجہ سے بیمار ہو گیا مگر جو میرے رفیق عمنوار تھے ان کے مشورہ سے ایک منزل کرایہ دے کر سوار ہو گیا۔

تعریف منزل اور وقوعہ	میل ۲۳	۷۱	بیر خلص سے	۹
----------------------	--------	----	------------	---

یہ ساخت طویل پانچ چھ میل بوجہ سنگ فاراراہ ثقل آس پاس کثرت سے کیکر کے درخت ہیں بیر درویش کا شیریں پانی ہے مگر یہاں دوکان نہیں قریب ہی تر کوں کے مکان تھے مگر جنگ سے ویران ہو گئے۔

وقوعہ

ایک افغانستانی کا ڈول پانی میں گر گیا پھر وہ از بس پر بیٹھا ہے رتی کے ذریعہ ڈول نکالنے کے لئے گیا بھروسہ اب شتاب گر کر ڈوب گیا پھر غواس کے ذریعہ بھی دستیاب نہ ہوا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

تعریف منزل و وقوعہ	میل ۳۲	۷۲	مدینہ عالیہ تک	۱۰
--------------------	--------	----	----------------	----

یہ آخری مسافت پر سعادت میں شاکرین کو از بس راحت اور قدیمی سیاحت سے شجاعت رہتی ہے مگر بیر علی جو مدینہ منورہ سے تین میل پہلے ہے تکلیف ہوتی ہے پھر بھی خدا تعالیٰ کی حفاظت کے قافلہ سلامت چلا جاتا ہے کچھ تکلیف بھی ہو تو سعادت ہے

حق پرستوں کے لئے راحت بھی آزار ہے

حضرت مولانا مفتی صاحب داد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انوار ابشارۃ کے تتمہ میں لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے مدینہ

طیبہ کے کئی ایک راستے ہیں اس لئے منزلیں بھی جدا جدا ہیں۔ حضور اکرم ﷺ جیتہ الوداع میں جس راستے سے تشریف لے گئے اس کی منزلیں حسب تحقیق رفعت پاشا جو تیرہ سال امیر الحجہ و امیر محفل رہے ہیں یہ ہیں۔

مکہ معظمہ سے پہلی منزل سرف (۲) دوسری عسفان (۳) تیسرا الحجہ (۴) رانخ (۵) الابواء یہاں حضور اکرم ﷺ کے والد کا مزار ہے (۶) العرج (۷) الاشaber (۸) ردیفہ (۹) الروجا (۱۰) بیر علی ہے۔

پھر فرمایا کہ دوسرے واسطے کی منزلیں (۱) مقام شہداء (۲) وادی فاطمہ (۳) عسفان (۴) قضمیہ (۵) رانخ (۶) مستورہ (۷) بیر شیخ (۸) ریبار بن حصان (۹) بیر درویش (۱۰) بیر الماس (۱۱) بیر علی یا زوال حکیمہ

انتباہ

راست پر کھن اور رہنوں کی مذکورہ بالاشکایت نہ صرف اہل ہند کو تھی بلکہ تمام مالک کے حاجج ایسی خرایبوں سے نالاں تھے بقدر نمونہ مصر کے اعلیٰ ذمہ دار شخصیت کی عبارت ملاحظہ ہو۔

تعدی علی الحجاج

فِي يَوْمِ أَذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ نَصُلَ إِلَى مَكَّةَ عَلَى قَافْلَةٍ كَانَتْ بِجَرَةٍ بَيْنِ جَدَّةَ وَمَكَّةَ فَقَتَلُوا مِنْ رِجَالٍ
هُوَنَ كَثِيرٌ وَسُلُوهُمُ الْمَتَاعُ وَالْفَقْدُ وَأَكْلُى وَكَانَ فِيهِمْ مِنَ الْمُصْرِيِّينَ وَاسْوَادَانِيِّينَ (الْمُلْعَنُ
الْحَرَمَيْنِ جَلْد٢ صفحہ ۷)

ے اذی العقدہ میں قبل اس کے کہ ہم مکہ شریف پر ہو نچتے بجرہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کر دیا بہت سے مردوں عورتوں کو شہید کر دیا، بہتوں کو زخمی کیا اور ان کا مال اسہاب و زیورات و نقد لوث لئے انہیں مصری بھی اور سوڈانی وغیرہ وغیرہ۔

نیک نامی

فقیر ۱۳۹۹ھ احتالا ۲۴ھ مسلسل ہر سال حر میں طبیین کی حاضری سے بہرہ ور ہو رہا ہے اب سفر کی سہولتوں کا تو ناظرین پڑھ پکے ہیں لیکن امن و سلامتی کا یہ حال ہے کہ مال و متاع گلی کوچے میں برسوں پر اڑ رہیا لیکن اسے اٹھا کر لیجانا تو بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے خالی ہاتھ لگانا بھی ثابت نہ ہو سکے گا حر میں طبیین میں ایک راستوں، جنگلوں اور ویرانوں تک یہی حال ہے۔

وہ دیکھو جگہ گاتی ہے شب اور قمر بھی
پھر دن نہیں کہ بست و چہارم صفر کی ہے

حل لغات

جمگاتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ پھر دن، پھر کی جمع، تین گھنٹے کا وقفہ، بست و چہارم صفر، ماہ صفر کی چوبیسویں شب۔

شرح

رات کو سفر کرنے والے مسافروں مدینہ پاک کے راہیوں دیکھورات کیسی روشن محسوس ہو رہی ہے حالانکہ چاند چکلیلی راتوں کا نہیں بلکہ ہم جس شب کو سفر کر رہے ہیں ماہ صفر کی چوبیسویں ہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ مدینے کاراہی

شرح حدائق کے اسی حصہ کے ابتداء میں فقیر نے تفصیل سے امام احمد رضا قدس سرہ کا سفر نامہ لکھا ہے کہ آپ کمہ معظمه سے مدینہ طیبہ ۲۲ صفر ۱۳۴۰ھ کو روانہ ہوئے خود فرمایا کہ اسی تاریخ کو کعبہ جان سے کعبہ جان کی طرف روانہ ہوا پہلی رات جنگل میں آئی صحیح کی مثل روشن ہوتی تھی جس کا اشارہ میں نے قصیدہ حضور جان میں کیا جو حاضر دربارِ معلیٰ میں لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا جس کی شرح ناظرین ملاحظہ فرمائے ہیں۔

ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے
یہ ڈھلتی چاندنی تو پھر دو پھر کی ہے

حل لغات

ماہ مدینہ، حضورا کرم ﷺ - چاندنی، روشنی چاند کی۔

شرح

حضورا کرم ﷺ اپنی تجلی خاص سے روشنی بخششیں ورنہ چاند کی روشنی تو پھر دو پھر کی ہے چونکہ اب مدینہ طیبہ قریب سے قریب تر ہے ادھر چاند کی چاندنی بھی شب کے آخری حصہ میں ہوتی ہے اسی لئے آرزو فرمائی کہ چاند کی روشنی لمحات کی مہان ہے ہمیں مدینہ طیبہ ہی اپنی تجلی سے نوازے جو داعی ہے اس کی روشنی میں ہماری داریں کی فلاح و بہبودی ہے۔

من زار ترتی وجہت له شفاعتی
ان پر درود جن سے نویداں بشر کی ہے

شرح

یہ حدیث شریف کی اشارہ ہے اس کا ترجمہ ہے جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اسے میری شفاقت واجب ہے نوید بشر میں بشارت کی جمع ہے ایک اعتراض منکرین پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ قبر انور کو تو دیکھنے کا امکان ہی نہیں تو پھر حدیث پر تو عمل نہ ہوا پھر شفاقت کا حصول کیسے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عرف میں جو شے کسی کو حادی ہو تو اس کے اندر والی شے کے بجائے باہر والی شے کا ذکر ہوتا ہے اور احکام شرعیہ کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ مزید سوالات و جوابات کے کتاب محبوب مدینہ میں مذکور ہیں اور شرح حدائق میں بھی عرض کردیجے ہیں۔

مخالفین کا عقیدہ

ہمارے دور کے وہ ایوں نجد یوں اور اکثر دیوبند یوں کا زیارت گنبد خضراء یعنی مزار رسول ﷺ پر برآ راست حاضری کے انکار کا مقتداً و مادی بجا ابن تیمیہ ہے وہ اپنے دور میں فتنہ انگیز اور ضال و مضل مشہور تھا اس دور کے علماء مشائخ سے مناظروں سے شکست در شکست کھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا معافی ملنے پر باہر آتا تو اسے شرارت کی عادت مجبور کرتی یہاں تک کہ اسی سزا کی وجہ سے جیل میں مرا۔

ابن تیمیہ کے خیالات فاسدہ

(۱) حضور اکرم ﷺ کے مزار کا سفر حرام ہاں بالواسطہ یعنی مسجد نبوی کی حاضری مزار پر جایا جاسکتا ہے۔

(۲) حضور اکرم ﷺ کے مزار کی زیارت کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہیں وہ موضوع یا کم از کم ضعیف ضرور ہیں۔

(۳) جب حضور اکرم ﷺ یہاں مزار میں زندہ ہی نہیں بلکہ ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہے اسی لئے اس کے نزدیک حضور اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔

اہل سنت کا عقیدہ

(۱) حضور اکرم ﷺ زندہ بحیات حقیقی ہیں (۲) ہم زندہ سمجھ کر ہی حاضری دیتے ہیں اسی لئے ہماری حاضری کی اصلی غرض و غایبت سرد و رعایت ﷺ ہیں اور حج آپ کے طفیل نصیب ہوتا ہے جیسا کہ گلے شعر میں امام احمد رضا قدس سرہ نے تصریح فرمائی ہے اور الملفوظ جلد ۲ میں بھی (۳) زیارت مزار رسول ﷺ کی احادیث صحیح مرふہ ہیں بعض روایات کی سندات ضعیف ہیں تو وہ بھی حسن ہیں اس کی تحقیق عالمانہ امام سکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف "شفاء القام" میں خوب ہے۔

مختصر رد

نقیر اویسی غفرلہ نے محبوب مدینہ میں ابن تیمیہ کی پارٹی کے تمام غلط اور ہام کا قلع قلع کیا ہے یہاں مختصر عرض ہے۔

(۱) عام قبور کی زیارت کا عام حکم ہے

كنت نهتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. (مشکلاة)

میں تمہیں قبور کی زیارت سے روکتا تھا اب اجازت دیتا ہوں ان کی زیارت کیا کرو۔

فائدة

جب عام قبور کی زیارت کا حکم مطلق (عام) ہے جس میں سفر و حضرت اور اصلی و طفیلی کا کوئی ذکر نہیں جس کے سفر کو

ابن تیمیہ وغیرہ جائز سمجھتے ہیں تو پھر امام الانبیا ﷺ کے مزار کی زیارت کے سفر کا حرام ہونا کیسا یہ انوکھی منطق ابن تیمیہ اور نجدیوں وہابیوں نے کہاں سے حاصل کی ہے۔

(۲) عام سفر میں جیسی نیت یا سفر کو تعلق ہو گا اس طرح کا سفر واجب، سنت، مستحب، مباح ہو گا۔ جب ایسے سفروں کے لئے اجازت ہے تو پھر روضۃ القدس کے لئے رکاوٹ کیوں۔

(۳) ”لَا تَشْدُدُوا الرِّحَالَ“ حدیث میں مساجد ثلاثہ کی قید ہے اور وہ بھی صرف فضیلت و اہمیت کے اظہار کے لئے ورنہ مسجد قبا شریف کے لئے سفر نہ صرف مباح بلکہ عمرہ کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔

حیاة النبی ﷺ

حضور اکرم ﷺ بحیات حقیقی حسی گند خپڑاء میں رونق افروز ہیں اسی طرح عالم کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں جیسے ظاہری حیات مبارکہ میں اس سے بڑھ کر

وَلِلآخرة خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (پارہ ۳۰، سورہ الحج، آیت ۲)

اور بے شک کچھلی تمہارے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

اس معنی پر حاجی کا حج طفیل ہوا کہ وہ تو اس کے در کی بھیک ہے۔

ایک اعرابی مسلمان جس کا سینہ توحید الہی کا خزینہ اور جس کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا یہ روضۃ القدس کے پاس جب حاضر ہوا تو پہلے انتہائی والہانہ عقیدت اور جوشِ محبت کے ساتھ روضۃ انور کے ارد گرد کی خاکِ پاک کو اپنے سر پر ڈالنے لگا پھر انتہائی سوز و گداز میں رو رو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہم نے اس کو پڑھا اور اس پر ایمان لائے یا رسول اللہ آپ پر خداوند قدوس نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ آیت بھی ہے کہ ”وَلَكُمْ“

إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُمْ وَكَيْرَهُمُ اللَّهُ! میں نے گناہ کر کے بیٹک اپنی جان پر ظلم کیا ہے لہذا میں اللہ کے فرمان ”جَاءَهُمْ وَكَيْرَهُمُ اللَّهُ“ کرتے ہوئے آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے حاضر ہوا ہوں اس لئے یا رسول اللہ آپ میرے گناہوں کی بخشش کرا دیجئے۔

اے وہ مقدس ذات کہ جب زمین میں آپ کا جسم اطہر فن کیا گیا تو اس کی پاکیزگی سے زمین اور ٹیلے بھی طیب و طاہر ہو گئے

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

نَفْسِي الْفَدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنُهُ

یار رسول اللہ میری جان اس قبر پر قبر بان جس میں آپ سکونت فرمائے ہیں اس قبر میں پاک دامنی ہے سخاوت ہے کرم ہے۔

منقول ہے کہ یہ اعرابی جب اپنی عرضی دربار نبوت میں پیش کر چکا تو قبر انور سے ندا آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا

گیا۔

فائدة

اعربی کی حاضری اور نقد جواب پانا دلیل ہے کہ نبی رحمت ﷺ قبر انور میں زندہ ہیں اسی طرح احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ ہر شخص کے صلوٰۃ وسلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں خواہ وہ زائر ہو یا نہ ہو۔

تمام اہل قبر

حدیث میں ہے

مَأْمَنُ أَحَدٍ يَمْرُ بِقَبْرِ إِخْرِيْهِ الْمُؤْمِنُ كَانَ يَعْرَفُهُ فِي سَلَمٍ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جو شخص کسی ایسے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزر جسے وہ پہچانتا تھا تو وہ گزرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچانتا ہے۔

فائدة

حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ یہ مقام تو ہر صاحب قبر مومن کو حاصل ہے اور رسول مقبول ﷺ کا مرتبہ تو لاکھ درجے افضل ہے۔ امام ابوالیمن بن عساکر فرماتے ہیں

إِذَا جَازَرَدَهُ ﷺ جَازَرَدَهُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ يَسْلِمُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاقِ مِنْ أَمَّةٍ

جب زائر کا جواب دینا آپ ﷺ سے ثابت ہے تو پھر ہر امتی کے سلام کا جواب بھی ممکن ہے خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو۔

نتیجہ

جس مسلمان پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ حضور اکرم ﷺ زائر کا سلام خود سنتے ہیں وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ نبی پاک، صاحب لولاک ﷺ کے دربار میں حاضر ہونے میں سنتی اختیار کرے بلکہ اس کا جی تو یہی چاہتا ہے کہ حج طفیلی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت نبوی ﷺ کے لئے حاضری دے اس کے لئے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ دعا کے لئے قبر انور کی طرف منہ کر کے کھرا ہو، دربارہ سالت میں حاضری کے وقت قبلہ رخ کھرا ہونا ضروری نہیں یہاں تک کہ دعا کے وقت بھی چہرہ اقدس کی طرف منہ اور قبلہ کو پشت ہو اور یہی تمام ائمہ اسلام کا مذہب ہے ہوائے خجد یوں بدعتیوں کے کہ آج کل دعا کے وقت جبراً حضور اکرم ﷺ کی طرف پشت اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں یہ ان کی ایجاد کردہ بدعت ہے اسلاف صالحین رحمہم اللہ دعا کے وقت بھی رخ مصطفیٰ ﷺ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے تھے پھر ایک دوسرے کو اس پرختی سے عمل کراتے۔

مکالمہ امام مالک اور ابو منصور عباسی خلیفہ

ابو جعفر منصور سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین اس مسجد میں آواز بلند نہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے ادب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. (پارہ ۲۶، سورہ الحجرات، آیت ۲)

اپنی آوازیں اوپنجی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔

اور آواز کو پست رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. (پارہ ۲۶، سورہ الحجرات، آیت ۳)

بیشک جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔

حوروں کے باہر سے پکارنے والوں کے بارے میں فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ (پارہ ۲۶، سورہ الحجرات، آیت ۴)

بیشک وہ جو تمہیں حوروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔

اور آپ کی عزت و حرمت بعد ازاں صال بھی وہی ہے جو قبل از وصال تھی۔ ابو جعفر نے آپ سے پوچھا

”يَا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعوام استقبل رسول الله فاذبقيه“

کیا قبلہ کی طرف منہ کروں یا رسول رسول اللہ کی طرف کروں

حضرت امام مالک نے فرمایا

ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلة ابيك آدم عليه السلام الى الله تعالى يوم القيمة بل

استقبلة واستشفع به فيشفعه الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ

تو اپنا منہ اس شخصیت سے کیوں پھیرتا ہے جو تیرا اور تیرے جدا مجد آدم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وسیلہ ہیں آپ کی طرف رُخ کر کے آپ سے شفاعت کا سوال کرالہ ان کی شفاعت قول فرماتا ہے پھر یہ آیت پڑھی "وَلَئِنْ
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ"

فائده

اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ شفاء میں ذکر کیا ہے اور بہت سے دیگر علماء نے بھی تصریح کی ہے علماء ہند سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔

تصریحات احناف و دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ

اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا انہیں تمام ائمہ آپ کے ساتھ ہیں۔

حنفی فتویٰ

ملا علی قاری نے "المسک والمنقى" میں لکھا ہے کہ اس بارے میں فقهاء کا اختلاف ہے بعض علماء نے احناف مثلاً ابواللیث اور ان کے تبعین کرمانی سرو جی کی رائے ہے کہ زائر چہرہ قبلہ کی طرف کرے اسی طرح حسن بن زیاد نے امام عظیم ابوحنیفہ سے بھی روایت کیا پھر امام ابن الہمام سے نقل کیا ہے کہ ابواللیث سے جو قول منقول ہے (چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے) مردود ہے کیونکہ امام عظیم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا

من السنۃ ان تاتی قبر رسول الله فیستقبل القبر بوجهك تقول السلام عليك النبی

ورحمة الله برکاته

سنت یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کی طرف رُخ کر کے حاضری دی جائے اور سلام عرض کیا جائے "السلام
علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته" پر اس کی تائید اس روایت سے کی ہے۔

علامہ مجدد الدین فیروز آبادی نے عبد اللہ بن المبارک کے حوالے سے قتل کیا کہ میں نے امام عظیم ابوحنیفہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنایا

امام سختیابی

قدم ایوب السختیانی و انا بالمدینة فقلت لا نظر ن مایصنع فجعل ظهره ممایلی القبلة ووجهه
ممایلی وجه رسول اللہ ﷺ و بکی متباک فقام فقیہ

میں مدینہ منورہ میں تھا کہ حضرت ایوب سختیانی حاضری کے لئے آئے میں نے دل میں سوچا دیکھو یہ کس طرح حاضری
دیتے ہیں انہوں نے پشت قبلہ کی طرف اور چہرہ آپ کی طرف کر کے سلام عرض کیا اور تکلف خوب روئے اس کی میں
دلیل پیش خدمت ہے۔

دلیل وسیلہ از صاحب وسیلہ علیہ وسلم

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ایک نابینا شخص نے رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہو کر اپنی بینائی ختم ہونے کا ذکر کیا اور کہا میں بڑا ہی پریشان ہوں میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ ﷺ نے
فرمایا وضو کرو رکعت نماز ادا کرو اس کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کر۔

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ مُحَمَّدَ نَبِيَ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي
حاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضِي لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِعْ فِي**

الہی میں مجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد ﷺ کے وسیلہ سے جو مہربانی کے نبی ہیں یا رسول اللہ میں
حضور ﷺ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت روا ہو، الہی انہیں میرا
شفع کر ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرم۔

حضرت عثمان بیان کرتے ہیں

فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالْ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرُّ

اللہ کی قسم ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی بلکہ طویل گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی کوہ شخص داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں کوئی
تکلیف نہ تھی۔

فائده

امام حاکم اور امام زینی دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضور اکرم ﷺ کے وسیلہ سے بارگاہ ایزدی میں
درخواست گزار ہونا صرف آپ کی حیات ظاہری سے مخصوص نہیں بلکہ بعد از وصال بھی جائز ہے کیونکہ انہی الفاظ کو بعض
صحابہ نے حاجتوں کی برآوری کے لئے بعد از وصال بھی استعمال فرمایا۔

عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

امام طبرانی نے درج ذیل حدیث اور یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کی خلافت کے دور میں اپنے کسی معاملے کے بارے میں کئی دفعہ آیا مگر آپ نے اس کے کام اور ضرورت کی طرف توجہ نہ دی وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا حضرت عثمان توجہ نہیں دے رہے تو حضرت ابن حنیف نے فرمایا تم ایسا کرو کہ وضو کر کے مسجد جا کر دور کعت نماز پڑھو اس کے بعد یہ کلمات ادا کر

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي
حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضِيَ لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِعْ فِي**

اللہی میں تجوہ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد ﷺ کے وسیلہ سے جو مہربانی کے نبی ہیں یا رسول اللہ میں حضور ﷺ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت روایہ الہی انہیں میرا شفیع کر ان کی شفا عت میرے حق میں قبول فرما۔

اس شخص نے یہ وظیفہ کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی پہنچا ہی تھا کہ در بان آگیا اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان کے پاس لے گیا آپ نے اسے چٹائی پر اپنے ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے بیان کی آپ نے اس کو حل فرمادیا اور فرمایا تو نے اپنی حاجت ذکر کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی آئندہ جو بھی ضرورت ہو فی الفور میرے پاس چلے آیا کرو وہاں سے فارغ ہو کرو وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور یہ کہتے ہوئے شکر یہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی حضرت عثمان کے پاس میری حاجت کے بارے میں آپ نے سفارش کی حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا بخدا میں نے اس معاملے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں کی میں آپ کو اصل بات بتلا دیتا ہوں پھر ناپینا شخص والا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کی مراد اس دعا کے صدقے برآئی۔

فائدة

امام منذری فرماتے ہیں کہ اسے طبرانی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کے بارے میں ابن تیمیہ نے ابو عبد اللہ مقدس کے حوالے سے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

فائدة

اس سے واضح ہوا کہ عثمان بن حنفی نے حاجت مند کو ایسی تعلیم دی جس میں حضور سے توسل اور بعد از وصال آپ سے طلب مدد کے لئے نہ موجود ہے اور جب اس شخص کو شک گزرا کہ عثمان بن حنفی نے خلیفہ وقت کے سامنے اس کی سفارش کی ہے تو عثمان بن حنفی نے قسم کھا کر بتایا کہ انہوں نے خلیفہ وقت سے اس کی حاجت کا ذکر نہیں کیا بلکہ تیرا کام توسل بالنبی اور استغاثہ بالنبی کے سبب ہوا ہے۔

مناسک حج کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حج کو جانے والا شخص آپ کی حاضری ترک نہ کرے اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ حج یا عمرہ سے پہلے مدینہ منورہ میں حاضری دے یا بعد میں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ "جدب القلوب" میں لکھتے ہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسول ﷺ کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مسجد شریف کی زیارت سے شرف ہونا حج مقبول کے برابر ہے بلکہ جو حج ادا کر کے آیا ہے اس کی بھی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ زیارتِ مدینہ منورہ و مسجدِ نبوی شریف و دربار رسالت ﷺ کس قدر افضل عبادت اور بخشش و شفاعت کا ذریعہ ہے کیونکہ "من زار قبری و جبت له شفاعتی" نے مومنین کو حضور اکرم ﷺ کی شفاعت سے فیض یاب ہونے کا ایک ایسا موقع فراہم کر دیا ہے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں مال و دولت اس نعمت کے سامنے پیچ ہیں۔

اس کے طفیل حج بھی خدا نے کر دیے
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے

شرح

یہ مسلک حق کی طرف اشارہ ہے کہ اہل حق رسول ﷺ کو زندہ مانتے ہیں اور مخالفین نبی کریم ﷺ پر موتِ حقیقی کا عقیدہ رکھتے ہوئے آپ کو مردہ (معاذ اللہ) تصور کرتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک مدینہ طیبہ کی حاضری کے وقت مسجد نبوی کی نیت چاہیے اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا پھر مسجد نبوی کی حاضری بھی ہو جائیگی اور مخالفین کے نزدیک مسجد نبوی کی حاضری مقصود اصلی پھر مزار نبوی کی حاضری بھی ہو تو حرج نہیں اسی لئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ بالاصالۃ تو حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ کی حاضری ہے ان کے طفیل حض بھی نصیب ہو گیا۔ **فلله الحمد علی ذالک**

فائدة

حج فرض ہو یا نفل ہر دونوں میں اصل ارادہ بارگاہ جبیب ﷺ کی حاضری کا ہو۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے دو حج کئے پہلا فرض دوسرا نفل۔ ہر دونوں میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری اصلی مقصود تھی اور حج طفیلًا چنانچہ خود فرماتے ہیں اگر حج پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود تو زیارت طیبہ ہے دونوں باراں نیت سے چلا (معاذ اللہ) اگر یہ نہ ہو تو حج کا کوئی لطف نہیں (الملفوظ) یعنی اگر چہ فرض ادا ہو جائیگا جسم بے روح کی طرح۔

کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا
پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے

حل لغات

نہضت، کہیں جانے کے ارادے سے کھڑا ہونا۔

شرح

وہی پہلے شعر والی بات ہے کہ مقصود اصلی مدینہ طیبہ کی حاضری تھی اس لئے جب بھی کسی نے سفر کا مقصد پوچھا تو ہم نے کہا ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اس سے بعض جاہلوں نے مرادی کہ اعلیٰ حضرت مکہ معظمہ کے قائل نہیں (معاذ اللہ) اس لئے کہ دوسرے شعر میں مکرین کے اعتراض کا جواب دے دیا۔

کعبہ بھی ہے انہیں کی تجلی کا ظل
روشن انہیں کے عکس سے پتلی مجر کی ہے

حل لغات

پتلی سے مراد سنگ اسود ہے وہ سیاہ پتھر جو کعبہ معظمہ میں نصب ہے اور وہ آنکھ کی پتلی کے مشابہ ہے۔

شرح

ہم کعبہ مکرہ کی حاضری کے مکر نہیں کیونکہ کعبہ بھی ہمارے حضور نبی پاک ﷺ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے اسی لئے کعبہ معظمہ کی حاضری بھی ہمارے مقصد عظیم کے خلاف نہیں۔

فائدة

کعبہ بھی حضور اکرم ﷺ کے تجلیات کا ایک ظل ہے اس کی مفصل تحقیق کے لئے فقیر کی تصنیف "کعبہ کا کعبہ" پڑھنے مختصر تحقیق اگلی نعمت میں آیگی۔

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منی
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

شرح

اس شعر میں گویا سوال کا جواب دیا ہے سوال وہی کہ مدینہ طیبہ کی حاضری اصل اور کعبہ معظمه کی حاضری طفیلی کیوں تو فرمایا اس لئے کہ بحکم حدیث صحیح کرنے خلیل ہوتا نہ کعبہ تیار ہوتا اور نہ ہی منی کو عزت نصیب ہوتی اگر حضور اکرم ﷺ نہ ہوتے۔ تفصیل فقیر کے رسالہ ”شرح حدیث لولاک“ میں ہے۔

فائدة

کعبہ معظمه خلیل علیہ اصلوٰۃ والسلام نے بنایا اور منی مکہ معظمه سے تین میل پروہ جگہ ہے جہاں قربانی ہوتی ہے اور تین جگہ شیطان کو سنگریزے مارے جاتے ہیں یہ دونوں باتیں بھی اس مقام میں سنت خلیل اللہ علیہ اصلوٰۃ والسلام ہیں۔

بنائے کعبہ

اگر کعبہ کی بنا بہت پرانی ہے یوں سمجھئے کہ زمین کے بچھنے سے بھی پہلے اس کے نشانات و علامات موجود تھے پھر زمین بچھانے کا آغاز بھی یہاں سے ہوا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین پر سب سے پہلی عمارت کعبہ معظمه یہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةَ مُبَرَّكًا وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ (پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۹۶)

بیشک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہاں کا رہنماء۔

اللہ رب العزت کی طرف سے یکے بعد دیگرے منفرد قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے سرخو ہو کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے عظیم اور ارفع مقام پر فائز ہو گئے قرب تعالیٰ نے فرمایا

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (پارہ ۱، سورہ البقرۃ، آیت ۱۲۲)

فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوں بانے والا ہوں۔

امامت اور پیشوائی کی تجھیل کے لئے عبادت گاہ کی ضرورت تھی ایسے عظیم المرتبت امام کے لئے کعبہ مقدسہ سے بہتر کوئی عبادت گاہ نہ تھی لیکن اس کی پہلی تعمیر جو جانشینیت حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی وہ طوفانِ نوح علیہ السلام کے موقع پر آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور اس وقت چونکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ تھا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ مقدسہ کا حکم ہوا۔

وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَابَيْتَ لِلطَّالِبِينَ وَالْعَكْفِينَ وَالرُّكْجَعَ السُّجُودَ ۝

(پارہ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۵)

اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستر اکرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و بجود والوں کے لئے۔

جبیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ طوفانِ نوح علیہ السلام سے پہلے بحکم ربِ ذوالجلال عمارت کعبہ مقدسہ ملائکہ کرام اٹھا کر آسمان پر لے گئے تھے مگر باوجود صحیح جگہ معلوم نہ ہونے کے لوگ اپنے اندازہ سے یہاں برکت کے لئے آتے تھے اور ان کی دعا کیں شرفِ قبولیت پاتی تھیں۔

کعبہ مقدسہ کی نشاندہی کے طور پر اللہ رب العزت نے بادل کا ایک نکڑا بھیجا کہ اس کے سایہ سے کعبہ مقدسہ کی حد مقرر کی جائے چنانچہ حضرت جبرایل علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ نے کعبہ مقدسہ کی بنیاد یہاں تک کھودی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہو گئی اور اسی بنیاد پر آپ نے عمارت کی تعمیر شروع کی۔ کعبہ مقدسہ کی دیوار بنانے والے سیدنا خلیل علیہ السلام اور گارادینے والا سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ عمارت کا نقشہ اس طرح تھا

طول رکن اسود سے رکن شامی تک	۳۳ ہاتھ
رکن غربی سے رکن بیانی تک	۳۱ ہاتھ
عرض رکن شامی سے رکن غربی تک	۲۱ ہاتھ
رکن بیانی سے ججر اسود تک	۲۰ ہاتھ

اس وقت کعبہ مقدسہ مستطیل شکل ہی تھا بلکہ طول و عرض کی مقابل دیواروں میں بھی معمولی تھا۔

کعبہ کے اندر تھے اور نذر ائمہ وغیرہ کے لئے ایک خزانہ بھی بنایا گیا اور دروازہ زمین کے برابر رکھا گیا جب کعبہ کی دیواریں اوپنجی ہو گئیں تو آپ نے اپنے فرزند احمد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا ہمارے لئے کوئی پھر لاو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائی جائے۔

زہرۃ الریاض میں ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کے فرمان کے مطابق مناسب پھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس (جو مراہی کے تحت خسان سے وہاں لا یا گیا تھا) اسے آواز آئی میرے اندر آپ کی ایک امانت ہے آپ

پھاڑ کے قریب تشریف لے گئے تو حجر اسود (جو کہ حضرت جبراہیل علیہ السلام نے طوفانِ نوح کے وقت اس پیارا میں بطور امانت رکھا تھا) اور پھر مقامِ ابراہیم علیہ السلام دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ دونوں پتھر لے کر جب والد گرامی قدر کے پاس آئے تو سیدنا خلیل علیہ السلام نے حجر اسود کو تو دروازہ کے قریب دیوار میں لگا دیا اور بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر دیواروں کی تعمیر شروع کی۔

مقامِ ابراہیم

یہ وہ عظیم المرتبت پتھر ہے جو مقامِ ابراہیم کے مقدس نام سے مشہور ہے سبحان اللہ! جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدومِ میمنست لزوم کی کیا منفردشان ہے کہ دیوار کی تعمیر ہو رہی ہے دیوارِ ختنی اونچی ہوتی جا رہی ہے امراللہی کے تحت وہ پتھر یعنی مقامِ ابراہیم علیہ السلام بھی اتنا ہی اونچا ہوتا جا رہا ہے اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے اسی پتھر کے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى أ (پارہ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۵)

اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کفماز کا مقام بناؤ۔

مقامِ ابراہیم آج بھی مطافِ کعبہ میں موجود ہے جس کے ارڈر دشیش کا حلقة اور اس کے باہر سنگ سنگ مرمر کی جالیاں ہیں۔

فائدة

جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدومِ میمنست لزوم کی یہ شان ہے کہ وہ پتھر قیامت تک امت مسلمہ کے لئے جائے نماز بنا دیا گیا تو حضور خاتم النبیین حبیبِ خدا ﷺ کے پائے مقدس (جور عرشِ معلیٰ سے اوپر من پا پوش تشریف لے گئے) جہاں جہاں ثابت ہوئے ان مقامات کی کیا عظمت و رفتہ ہو گی کسی نے کیا خوب کہا ہے

طوطیائے چشم سازم دم بدم

آرزو دارم کہ خاک آن قدم

پانچ پھاڑوں کے پتھر

ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکمِ الہی کے تحت کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے دوران پانچ پھاڑوں کے پتھر استعمال کئے۔ ”طور، سینا، لبنا، جودی، ہرا“ ان پھاڑوں کے پتھر ملائکہ کرام کے ذریعہ مکہ مکرمہ میں لائے گئے۔

اہل بصیرت فرماتے ہیں ظاہری کعبہ پانچ پہاڑوں سے تغیر ہوا اسی طرح باطنی کعبہ (قلب مون) کی تغیر بھی اسلام کے عظیم پانچ اركان (کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) سے مکمل ہوتی ہے اور اگر بندگانِ خدا اس عمارتِ کعبہ مقدسہ کی طرف متوجہ ہو کردن میں پانچ نمازیں ادا کریں گے تو ان کو ان پانچ پہاڑوں کے برابر ثواب عطا ہو گا۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ارْبَيْنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(پارہ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۷)

اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے اہم سے قبول فرمائیں تو ہی ہے ستا جانتا۔

چنانچہ ۹ ہاتھ کی بلندی پر خانہ کعبہ کی چھت مکمل ہو گئی اور عالی مرتبہ باپ بیٹے نے بارگاہِ ایزدی میں اپنی مناجات

پیش کی

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ

الرَّحِيمُ ۵ (پارہ اسورہ البقرہ، آیت ۱۲۸)

اے رب ہمارے اور کہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبردار اور کہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائیں تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہر بان۔

کعبہ مقدسہ کی تولیت

کعبہ مقدسہ کی تغیر کی تجھیل کے بعد دونوں (باپ بیٹا) نے طوافِ کعبہ ادا کیا اور مناسک حج ادا کئے پھر باپ نے اس مبارک مکان کی تولیت اپنے سعادت مند فرزند کے زرعِ علاقہ کو دیکھ کر سرز میں شام کا تصور کیا اور بے اختیاری میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کے لئے بارگاہِ احادیث میں نہایت رقت قلب کے ساتھ دست بدعا ہوئے۔

دعوت ابراہیمی

اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تمام دنیا کو کعبہ مقدسہ کی زیارت اور حج کی دعوت دو

وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ

(پارہ ۷، سورہ الحج، آیت ۲۷)

اور لوگوں میں حج کی عامندگانی وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلي اونٹی پر کہہ دور کی راہ سے آتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ احادیث میں عرض پیش کی کہ اس جنگل بیابان کو ہستان میں میری آواز کہاں تک پہنچے گی۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا کہ تمہارا کام آواز دینا ہے اور تمام نسل انسانی کو آواز پہنچانا میری قدرت کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر حکمِ الحکم الی کمین نسل انسانی کو زیارتِ کعبہ مقدسہ اور حجّ کی دعوت دی تو جن کے مقدار میں حجّ ہے انہوں نے باپوں کی پشتیوں اور ماوں کے بطنوں سے جواب دیا

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ

برہان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ تمام عالم انسانیت کے بننے والوں نے اور جو لوگ رحم مادر یا صلب پدر میں تھے نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور کہا گیا ہے کہ جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حجّ کی سعادت حاصل کرے گا۔

دُعَائِيَ خَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

تعییر کعبہ کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حکمِ الحکم الی کمین "وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ" کی تکمیل میں نسل انسانی کو حج بیت اللہ شریف کی دعوت دی اور نسل انسانی "لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَكِنَّكَ" کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کا اقرار کیا تو آپ کے دل میں خیال گزار کہ جب لوگ حج کرنے آئیں گے تو کوئی مناسک حج سیکھنے سکھانے والا بھی ضرور چاہیے تو نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ ارجمند الرحمین میں عرض پیش کی رَبَّنَا وَ أَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُّ عَلَيْهِمُ اِلَيْكَ وَ يُعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَ الْحِكْمَةُ وَ يُزَكَّيْهِمُ اِنَّكَ أَنْكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پارہ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۹)

اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پہنچتے علم سکھائے اور انہیں خوب سخرا فرمادے بیٹک تو ہی غالب حکمت والا۔

مقامِ غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس قدر بسیط اور جامع ہے کہ اے مولائے کائنات ان لوگوں میں ایک جلیل القدر باعظمت اور ارفع و اعلیٰ رسول بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بسط و جامیعت کا اندازہ کرنا نہایت مشکل امر ہے مثلاً لوگ حافظ سے قرآن پڑھتے ہیں، قاری سے قرأت سیکھتے ہیں، عالم سے معانی معلوم کرتے ہیں اور مرشد سے اس کے اسرار تک پہنچتے ہیں لیکن آپ نے ایسی جامع و بسیط دعا فرمائی کہ یہ تمام فیوض بلکہ مزید بیشتر فیوض ایک ہی آخر الزمان میں ہوں۔

چنانچہ آپ کی مقبول کے نتیجہ میں عزیز الحکیم خالق نے امت مسلمہ کو وہ سب کچھ رحمۃ للعالیین ﷺ کی صورت میں

عطافرمادیا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ أَنفُسِهِمْ إِلَيْهِ وَيُرْسِكُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْنِي ضَلَلٌ مُّبِينٌ (پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۱۶۲)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نما اور دعا سے فراگت پانے کے بعد اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ مقدسہ کا متولی مقرر کیا اور خود ملک شام میں تشریف لے گئے دوسرے سال حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ کی معیت میں مکہ معظمه یا کعبہ مقدسہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پُر خلوص مہمانداری میں رہے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہر سال مکہ مشرفہ تشریف لاتے رہے اور حج کی سعادت سے مشرف ہوتے رہے۔

تاریخ کعبہ مقدسہ

سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کعبہ مقدسہ کی پہلی تعمیر انسانی ہاتھوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند رحمد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔

تعمیر بنو جرہم

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت قبیلہ بنو جرہم کے پاس آگئی تو تعمیر پرانی ہونے کی وجہ سے بنو جرہم نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔

تعمیر قصیٰ ابن کلاب

اس جنگ کے نتیجہ میں کعبہ مقدسہ کی تولیت پھر بنو اسماعیل کے پاس آگئی تو تیسرا دفعہ قصیٰ ابن کلاب (حضرت ﷺ کے پانچویں دادا) نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔

غلاف کعبہ

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے تقریباً ایک ہزار سال قبل شاہ مکن تاج حمیری نے کعبہ مقدسہ کے چاروں طرف سیاہ رنگ کا ریشمی غلاف چڑھایا یہ رسم اس کے بعد بھی جاری رہی حتیٰ کہ اسلام کے بعد بھی نبی کریم ﷺ نے قباطی کا پردہ

چڑھایا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غلاف چڑھایا اس کے بعد تمام حکمران غلاف چڑھاتے رہے۔ ۲۰۰۱ میں سلطان مراد نے ایک نہیں غلاف مصر سے تیار کرایا جس میں شہری پٹکا لگایا اور کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" لکھوا یا اور ایک طرف سلطان کا نام لکھا گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ حج کے موقع پر غلاف مصر سے بننا کر آتا رہا۔ ۱۳۸۲ھ میں غلاف کعبہ لاہور سے تیار کیا گیا اور اب تک معلمہ میں ہی تیار ہے غلاف کعبہ کی پٹی سولہ نکڑوں میں ہے جس کی گل لمبائی ۶۱ میٹر اور چوڑائی ۹۲ سینٹی میٹر ہے۔

چوتھی تعمیر قریش مکنے اس وقت کی جب حضور اکرم ﷺ کی عمر مبارک ۲۵ سال تھی۔

۱۴۰ھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مطاف کو وسیع کیا اور شنی کا انتظام کیا دروازے تعمیر کرائے اور ڈیم بنایا تا کہ سیلا ب کا پانی اندر داخل نہ ہو۔

۱۴۲ھ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطاف کو مزید وسیع کیا اور کچھ دوسری تعمیرات بھی کرائیں۔

تعمیر عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پانچویں تعمیر حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کو تعمیر ابراہیمی پر مکمل کیا اور حطیم کو بھی شامل عمارت کر لیا یمن سے خوبصوردار مٹی ملنگا کر گارے میں استعمال کی دیواروں کو مزید وسیع کیا دیواروں کے باہر مشک و غبر سے کھنگل کی اور نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا اور قربی مکانات خرید کر مطاف کو مزید وسیع کیا۔

۱۴۳ھ میں جاج بن یوسف کی سنگ باری کے نتیجہ میں کعبہ مقدسہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا تو عبد الملک اموی نے کعبہ کی ازسر تعمیر کی اور بنیاد پھر سے تعمیر قریش کے مطابق کر دی اور دروازہ زمین سے کافی اوپر کر دیا اور اس کے کواڑوں کو چاندی کے پتروں سے مزین کیا پر نالہ (میزاب رحمت) بھی پیتل کا لگوایا یہ چھٹی تعمیر تھی۔

خلفیہ ہارون الرشید نے پرانے پتروں کو اتردا کر سونے کے پتروں سے بجا یا، کندے اور کلیں بھی لگوائیں اس کا خیال تھا کہ کعبہ شہید کر کے عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے لیکن علماء کے منع کرنے پر رک گیا کیونکہ بار بار گرانا اور بنانا کھیل بن جائے گا۔

خلفیہ متولی علی اللہ کے زمانہ میں چوکھت کی لکڑی کرم خور دہ ہو گئی تو اس پر چاندی کے پتے چڑھائے۔

۱۴۴ھ میں خلیفہ مہدی بن منصور نے مسجد کو وسیع کر دیا اور برآمدہ بھی تعمیر کرایا۔

۱۴۵ھ میں خلیفہ مہدی بن منصور نے کعبہ کے شمالی اور مشرقی حصہ کو تعمیر کرایا پھر جنوب کی طرف بھی تو سیع کی اس

طرح کعبہ شریف عین وسط میں آگیا۔

۷۰۲ھ میں خلیفہ مقتدر باللہ نے باب ابراہیم کی طرف وسیع کرایا۔

۷۰۳ھ میں کعبہ مقدسہ میں آگ لگنے کی وجہ سے چھتیں اور کچھ عمارت شہید ہو گئیں تو سلطان ناصر نے عمارت کو از سر نو تعمیر کرایا۔

۷۰۵ھ میں خلیفہ سلیمان عظیم ثانی نے میزاب رحمت کا پرناہ چاندی کا بنوا کر لگوایا۔

۷۰۶ھ میں سلطان سلیمان عثمانی نے عمارت میں چھتوں کو از سر نو تعمیر کرایا گندوں کا اضافہ کرایا جو آج بھی موجود ہیں۔

۷۱۰ھ میں سلطان مراد عثمانی کے زمانہ میں عمارت بہت کہنہ ہو گئی تھی اس لئے اس نے عمارت شہید کر کے تعمیر قریش کے مطابق بہترین تعمیر کرائی اور سنگ مرمر کا فرش لگوایا چھت کے اندر نفسِ محملی چھت گیری لگوائی اور نفسِ ریشمی سیاہ پرده تمام عمارت کے باہر لگوایا، کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُهُ" دوسری طرف شہری پکا پر سلطان کا نام لکھایا موجودہ عمارت وہی ہے۔

۷۱۴ھ میں سلطان عبدالجید عثمانی نے (میزاب رحمت) سونے کا پرناہ لگوایا جس نتیجے میں بزرگ کا سنگ مرمر لگوایا آج تک وہی پرناہ ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر یہیں پر ہے اور کن عراقی کی طرف حضرت ہاجہ کی قبر ہے یہاں بزرگ کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔

۷۲۷ھ میں سعودی حکومت نے چھت ہٹا کر نئی چھت بنوائی اور سونے چاندی کا استعمال منوع قرار دیا یہ کعبہ مقدسہ کی تیر ہو یں تعمیر ہے جو آج موجود ہے۔ **۷۲۸ھ** میں صفا و مروہ کی سڑک بنوائی تا کہ سعی آسان ہو جائے اور زیادہ رش نہ ہو۔ دوسری منزل پر جانے کے لئے سیر ہیاں بنائی گئیں نیچے سڑک میں سولہ دروازے بنائے گئے اور آب زم زم کے انتظام کو بہتر بنایا گیا۔

مولانا علی نے واری تیری نیند پر نماز
اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے

حل لغات

خطر، ڈر، آفت، مشکل، یہاں بھی شرف۔

شرح

سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی صرف آپ ﷺ کی نیند پر نماز قربان کر دی اور وہ بھی عصر جو تمام نمازوں میں اعلیٰ شان والی ہے کہ جس کی قضا پر بانسبت دوسری نمازوں کے زیادہ وعید سنائی گئی ہے۔

فائدة

یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ خیر سے واپسی میں منزل صہبہ اپنی کرم ﷺ نے نمازِ عصر پڑھ کر مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نواز پر سراقدس رکھ کر آرام فرمایا مولیٰ علی نے نماز نہ پڑھی تھی آنکھ سے دیکھتے رہے کہ وقت جاتا ہے مگر صرف اس خیال سے کہ زانوس کا وہ تو شاید حضور اکرم ﷺ کے خواب مبارک میں خلل آئے جنمیش نہ کی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور خطر بمعنی شرف نمازِ عصر صلوٰۃ واسطے ہے کہ سب نمازوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

حضور اکرم ﷺ آرام سے اٹھے مولیٰ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور اکرم ﷺ نے حکم دیا فوراً ذوبہوا آفتاب پلٹ آیا۔ عصر کا وقت ہو گیا مولاعلیٰ نے نماز ادا کی آفتاب ذوبہ گیا۔ مزید تفصیل کے لئے فقیر کی تصنیف ”مجزہ رد الشتم“ کامطالعہ کیجئے۔

دلیل دوم حج میں حضور اکرم ﷺ کی حاضری اصل اور حج اس کے طفیل ہے اس کی پہلی دلیل تو وہی ہے کہ اگر حضور اکرم ﷺ تشریف نہ لاتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ حج تو یہ قاعدہ ہے کہ حج کا سبب ہی حضور اکرم ﷺ ہی ہیں یوں سمجھتے کہ جیسے بیٹھ کے وجود کا سبب باپ ہے باپ نہ ہوتا تو بیٹھ کا وجود بھی نہ ہوتا اسی لئے ماننا پڑیا کہ حضور اکرم ﷺ سبب کائنات ہیں اس میں کعبہ بھی اور اس کا حج بھی پہلی دلیل عمومی تھی اب دوسری دلیل قائم فرمائی وہ یہی کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کی نیند کی وجہ سے نماز قضا کر دی اور وہ بھی عصر کی نماز جو پانچوں نمازوں میں سے اکثر انہے کے نزدیک سب سے اہم ہے۔

صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے
اور حفظ جا تو جان فروض غر کی ہے

حل لغات

غرب بالضم جمع افر بمعنی روشن تر یعنی جاں کا رکھنا سب فرضوں سے اہم ہے لیکن صدیق اکبر نے حضور اکرم ﷺ کی تکلیف کے مقابل اس کا بھی خیال نہ کیا۔

شرح

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غاریث شریف میں حضور اکرم ﷺ کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی کہ غاریث میں اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیئے ایک سوراخ باقی رہا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور حضور اکرم ﷺ کو باہر سے بلا لیا۔ آپ نے ان کے زانو پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا اسی غار میں ایک سانپ مبتلا زیارتِ اقدس رہتا تھا اپنا سر صدیق کے پاؤں پر ملانہوں نے اس خیال سے کہ جان جائے لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا آخر اس سانپ نے آپ کا پاؤں کاٹ لیا ہر سال وہ زہر عود کرتا آخر اسی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔

فائدة

حضور اکرم ﷺ کے آرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلل نہ ڈال لیکن سانپ کے زہر کی شدت سے جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ اقدس پر گرے چشم مبارک محلی صدیق نے حال عرض کیا العابد وہن اقدس لگا دیا فوراً آرام ہو گیا بارہ برس بعد اسی سے شہادت پائی۔

ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز
پروہ تو کرچکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

شرح

مذکورہ دونوں دلیلوں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں تو قضا نہیں ہوتی بلکہ ان کے لئے سورج لوٹا کر نماز ادا کر ادی گئی ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ان کا جان قربان کر دینا تو قلب ثابت ہوتا جب وہ وفات پا جاتے اس کے جواب میں شعر مذکور میں فرمایا کہ یہ بھی حضور اکرم ﷺ کا عظیم احسان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بخش دی لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کچھ کرنا تھا کر چکے اور اسی عقیدہ کو مضبوط تر بنادیا کہ حضور اکرم ﷺ اصل ہیں اور ادا یگئی عباداتِ الہیہ فرع۔

امورِ تشریعیہ کا اختیار

اس شعر میں امام اہل سنت نے اس عقیدہ کا اظہار اور ساتھ ہی سابق مضمون کے دلائل شامل فرمائیں کر دیا کہ عقیدوں کو ایک قسم کے دلائل سے ثابت فرمادیا۔

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی اُس تاجور کی ہے

شرح

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ جملہ عبادات و فرائض (وغیرہ) فروع ہیں اصل تمام اصول حضور اکرم ﷺ کی غلامی اور نیازمندی ہے۔

فائدة

نبی کریم ﷺ کی بندگی یعنی خدمت و غلامی بھی خدا ہی کا فرض ہے مگر یہ فرض سب فرائض سے اعظم و اہم ہے جیسا کہ صدقیق اکبر و مولیٰ علیؑ نے عمل کر کے جتا دیا اور اللہ و رسول نے اسے مقبول رکھا۔ (حاشیہ حدائق)

مزید دلائل

امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے پیش نظر دو دلیلوں پر اکتفا فرمایا ہے احادیث کے مطابعہ سے اس قسم کے بے شمار دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فقیر چند مزید دلائل کا اضافہ کرتا ہے تاکہ عقیدہ مذکورہ مضبوط تر ہو۔

طواف کعبہ

صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کہا کہ آپ طواف کریں لیکن عثمان غنیؑ نے طواف نہ کیا بلکہ کہا کہ حضور اکرم ﷺ کے بغیر میں طواف نہ کروں گا۔

تحویل قبلہ

رسول اللہ ﷺ پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد بحکم الہی بنا بر حکمت و مصلحت وقت بیت المقدس آپ کا قبلہ مقرر ہوا چنانچہ آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یہود آپ پر طعن کیا کرتے تھے کہ محمد ﷺ ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ میں ہمارے تابع ہیں اس لئے آپ کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی۔

قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ إِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوْلُ وَجْهِكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهُهُكُمْ شَطَرَهَا (پارہ ۲، سورہ البقرہ، آیت ۱۳۲)

اہم دیکھر ہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری

خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانو تم جہاں کہیں ہوا پنا منہ اسی کی طرف کرو۔
اس تحویل کی کیفیت یہ ہے کہ نصف رجب یوم دوشنبہ یا نصف شعبان یوم سہ شنبہ کو حضور اکرم ﷺ مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھار ہے تھے تیری رکعت کے روئے میں تھے کوئی الہی سے آپ نے نماز ہی میں کعبہ کی طرف رُخ کر لیا اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا۔

تبصرہ اویسی غفران

نماز ایک اہم عبادت ہے اور قبلہ رُخ اس کا رکن اعظم لیکن صحابہ کرام نے قبلہ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ادھر منہ کر لیا جدھر حضور اکرم ﷺ نے رُخ مبارک پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں ہی بہشت کا لکھ عطا فرمادیا اسی لئے وہ عشرہ مشعرہ کے نام سے مشہور ہیں۔

شر خیر شور سور شرر دور نار نور
بشری کہ بارگاہ یہ خیرالبشر کی ہے

حل لغات

بشری، خوشخبری

شرح

یہاں حاضر ہو کر شر خیر سے بدل جاتا ہے اور غم والم کا شور سور یعنی خوشی و شادی ہو جاتا ہے اور غم و گناہ کے شر دور ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہاں کی حاضری نور علی نور ہو جاتی ہے۔

يُنَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَتٍ أ (پارہ ۱۹، سورہ الفرقان، آیت ۷۰)

تو ایسے کی برائیوں کو اللہ بھلا کیوں سے بدل دے گا۔

مجرم بلے آئے ہیں جاؤ ک ہے گواہ
پھر د ہو کب یہ شان کریمیوں کے در کی ہے

شرح

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَرَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَرَجَدُوا اللَّهُ

تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ (پارہ ۵، سورہ النساء، آیت ۶۳)

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

تو قرآن عظیم خود گنہگاروں کو اپنے حبیب کے دربار میں بلا رہا ہے اور کریموں کی یہ شان نہیں کہ اپنے در پر بلا کر رکدیں۔

بد ہیں مگر انہیں کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم
نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے

شرح

اس شعر میں اپنے اور مخالف کے درمیان فرق ظاہر فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں مخالف کون۔ اس فرق کو دو لفظوں میں واضح فرمایا کہ وہ یہ کہ ہم اہل سنت الحمد للہ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے نمک حلال اور وفا دار غلام ہیں اور مخالفین کے متعلق جملہ اہل اسلام اقراری ہیں کہ وہ اپنے نبی کریم ﷺ کی غلامی کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اسی لئے وہ اپنے آقا کے نمک حرام باغی ہیں اگر کوئی ان کی طرف داری کرتا ہے اس پر سوال ہے کہ یہ لوگ بالا صالتہ مدینہ پاک کی حاضری سے کیوں گھبرا تے ہیں بلکہ برآ راست حاضری کو شرک کا فتویٰ کیوں صادر کرتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ باغی ہیں۔

تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پر حرف
کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے

حل لغات

تف (عربی، مؤنث) تھوک، منہ کی رات، نفرت کا کلمہ، لعنت، یہاں یہی مراد موزوں ہے۔ حرف، یہاں بمعنی عیب ہے۔

شرح

اس شعر میں نجدی کو باغی ہونے پر اسے لعن طعن کرتے ہیں افسوس ہے کہ اے نجدی وہابی اور دیوبندی تیری بغاوت پر تو اس وفا دار نبی کریم ﷺ سے بغاوت کرتا ہے جو اپنی امت کے لئے دنیا و آخرت میں غنم خوار و نغمگسار ہیں۔ اب

تمہارا حال یہ ہے کتم ایسے غنوار نبی کریم ﷺ کے کمالات کے مکر ہو کران کی ہر کمال بات میں لب کشائی کرتے ہو۔

حاکم حکیم داد دوا دیں یہ کچھ نہ دیں
مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

شرح

اس شعر میں مخالف کا دو طریقوں سے رد فرمایا حکام معبہ کو داد دیتے ہیں، حکیم مریضوں کو داد دیتے ہیں، وہابی بھی ان باتوں کو مانتے ہیں مگر حضور اکرم ﷺ کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دیتے اگر غیر خدا سے کچھ مانگنا شرک ہے تو حاکم و حکیم سے داد یا دوا کا مانگنا کیوں نہ شرک ہوا اور اگر بواسطہ عطا نے خدا جان کران سے مانگنا شرک نہیں تو نبی ﷺ سے مانگنا کیوں شرک ہوا یہ ناپاک فرق کون تی آیت و حدیث میں ہے۔

شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو
کیا اس قدر خمیرہ ماؤ مر کی ہے

حل لغات

ماء، پانی، مدر، آب و گل (کلوخ) مٹی۔

شرح

یہ بھی سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اگر نورِ خدا ہیں تو بھی بشر کیوں اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر نورِ خدا (محمد مصطفیٰ ﷺ) اس صورت کا اختیار نہ فرماتا تو بشریت کو فضیلت کب نصیب ہوتی یہ صرف اور صرف بشریت کو آپ سے نسبت کی وجہ سے ملکوت و قدس سے بھی آپ کی بشریت کا مرتبہ بلند و بالا ہے بلکہ وہ ملکوت و قدس اللہ گویا شرما کر کہتے ہیں ”نورِ بنشکل بشر“،

چہ نسبت عالم خاک را بعالم پاک

نورِ الہ کیا ہے محبتِ حبیب کی
جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے

حل لغات

خوک، بھیڑیا۔ خر، گدھا۔

شرح

حضور نبی پاک ﷺ کی محبت ایمان کی جان ہے اور یہی نور خدا ہے اور ظاہر ہے کہ جس میں ایمان کا نور نہیں وہ قلب دیرانہ ہے اور دیرانہ میں ہی بھیڑیوں اور حشی گدھوں کا بیسرا ہوتا ہے۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجد یو
واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

نجد یوں وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں ذکر رسول ﷺ کا اتصال شرک ہے یہاں تک کہ فتاویٰ نذر یہ میں لکھ دیا کہ ذکر کے وقت ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ ”محمد رسول اللَّه“ نہیں ملانا چاہیے اس کا رد فرمایا کہ وہ ذکر جس میں رسول ﷺ کا ذکر کرنے ہو وہ ذکر تو جہنم میں لے جائے گا اس لئے کہ ہنودو یہود اور جوگی اور نصاریٰ وغیرہم بھی اپنے زعم میں یادِ خدا کرتے ہیں مگر حضور اکرم ﷺ سے الگ ہو کر لہذا جہنمی ہوئے۔

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ ہوں بے بصر کی ہے

حل لغات

حاشا (عربی) حرفِ تردید، پناہ، ہرگز نہیں، استثناء، مگر۔ بے بصر، اندھا۔

شرح

اس شعر میں بھی مخالفین کے اس عقیدہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ رسول ﷺ کے وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو جملہ اشیاء کا مالک و مختار بنایا ہے۔

فائدة

اممہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اور باطن میں جسم میں اور روح میں جو نعمت جو برکت جو خوبی روزِ ازل سے ابد الہاد تک جسے ملی اور ملتی ہے اور ملے گی اس سب میں واسطہ و قاسم محمد رسول ﷺ ہیں حضور ﷺ کے ہاتھ سے ملیں اور ملتی ہیں اور ملیں گی خود حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں

فاسِم وَاللهِ الْمَعْطِي
دِينِي وَالاَخْدَاءِ هُوَ اَبْلَى وَالاَمِينُ

اس کی مفصل شرح ”سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوریٰ“ میں ہے۔ (حاشیہ حدائق)

شعر کام طلب

حضورا کرم ﷺ کے وسیلہ واسطہ کے بغیر اللہ کسی کو کچھ عطا کرے ہرگز نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ کے وسیلہ کی ضرورت نہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور کسی دل کے اندر ہے کا اپنا نفسانی خیال ہے جو قرآن و احادیث اور اسلاف صالحین کے عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔

مقصود یہ ہیں کہ آدم و نوح و خلیل سے
ختم کرم ہیں ساری کرامت شر کی ہے

حل لغات

ختم کرم، کرم انگوم کا درخت۔ شمر، پھل۔

شرح

مقصود کائنات تو آپ ہیں آدم و خلیل و نوح علیہم السلام کے وسیلہ حضورا کرم ﷺ ہیں اس لئے کہ انگور کے درخت کے بیچ میں جو بزرگی ہے وہ پھل کی وجہ ہے اس معنی پر جتنی جسے کوئی بزرگی نصیب ہے تو وہ حضورا کرم ﷺ کا صدقہ ہے خواہ وہ آدم علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام

اگر نہ نام محمد فیاور دے شفیع آدم نہ آدم یاقنتے قوبہ نہ نوح از غرق نجینا

اسی لئے دوسرے مصرع میں فرمایا کہ جوام البشر یعنی بی بی حوا آپ کے روحانی پسر آدم (علیہ السلام) کی زوجہ ہیں۔

فائدة

بھیسے آدم علیہ السلام ابوالاجداد ہیں حضورا کرم ﷺ ابوالارواح ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مصاحف میں ”وازو اجه امها تم وهواب لهم“ (روح البیان اردو، پارہ ۲۴، صفحہ ۲۳۰)

لطیفہ

آن کل دیوبندی خصوصیت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المومنین کی اصطلاح گھڑی ہے جو بدعت بھی ہے اور غلط بھی۔ روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے جب ثابت ہوا کہ یہ امور مت خاص ہے تو اس اعتبار سے ان کا قبیلہ بھی محرم نہیں مثلاً ان کی بنات کو اخوت المومنین نہ کہا جائے گا اور نہ ہی ان کی بہنوں کو خالات المومنین اور ان کے

بھائیوں کو اخوان المؤمنین کہا جا سکتا ہے۔ اسی لئے امام شفافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بی بی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ اصطلاح صحیح ہوتی تو ان کا بی بی اسماء کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا کیونکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں ہیں تو بی بی اسماء حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہوئیں اور خالہ سے نکاح حرام ہے نہ ہی انہیں کسی نے خالیۃ المؤمنین کہا۔ اس سے خالیۃ المؤمنین کی اصطلاح غلط ٹھہری۔

ظاہر میں میرے پھولِ حقیقت میں میرے نخل
اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے

شرح

یہ شعر اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں مذکور ہے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضور ﷺ کو یاد کرتے تو یوں کہتے

یا ابنی صورۃ و ابامی معنی۔ (مواہب لدنیہ)

اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ

پہلے ہو ان کی یاد کے پائے جلا نماز
یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پھر کی ہے

حل لغات

جلا (بالکسر) مصدر ہے جلاء تھا، اردو میں ہمزہ کے بغیر پڑھا کر کھا جاتا ہے یہاں حاصل مصدر بمعنی روشنی و صفائی۔

شرح

اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت محدث بریلوی قدس سرہ کے دور میں دونوں حرم شریف میں تہجد کے وقت سے مؤذن مناروں پر جا کر حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ وسلام بآواز بلند عرض کرتے رہتے ہیں تو نمازِ صبح سے پہلے حضور کی یاد ہوتی ہے جس سے نماز جلا و ضیاء پاتی ہے جیسے فرض سے پہلے سنتیں۔

اذان سے قبل صلوٰۃ وسلام

حر میں طبعیں میں ایسے ہی تمام اسلامی ممالک میں بھی یہ کذا اسی صلوٰۃ وسلام کا سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی

کے دور سے شروع ہوا اور اسی طریقہ دینیت کو علمائے حرمین طبیین کے انہمہ اعلام نے سراہا چنانچہ صرف استاذ علماء الحرمین امام ابن حجر عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ کا صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں مزید تفصیل و تحقیق فقیر کے رسالہ ”رجم الشیطان فی الصلوٰۃ والسلام“ اور ”اذان اور صلوٰۃ والسلام“ کا مطالعہ فرمائیے۔

استاذ الحرمین حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا

نعم ما فعل جزاہ اللہ خیرالجزاء . (فتاویٰ کبریٰ جلد اصححہ ۱۲۱) خوب کیا انہیں اللہ تعالیٰ بہتر جزادے۔

یہ ایسے ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں تراویح پڑھنے اور پھر حفاظ کے پیچھے قرآن سننے کا طریقہ جاری کیا تو خود فرمایا

نعمت البدعة کیسی اچھی بدعت ہے

ان کے اس طریقہ سے مساجد میں رمضان المبارک میں حفاظ کا پڑھنا اور عوام کا قرآن سننا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزادے کیا خوب اسلامی رونقیں ہیں۔

صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کارنا مے کو تمام فقہائے احناف شافع وغیرہم حرمہم اللہ نے سراہا ملاحظہ شامی، طحطاوی، مراثی الفلاح، تاریخ الخلفاء وغیرہ وغیرہ لیکن تعصب کا پیڑا غرق ہو مسلمان نما پارٹیاں دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لئے اس طریقہ خیر کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طریقہ تمام ممالک اسلامیہ میں راجح ہوا اور اب بھی تمام ممالک اسلامیہ میں راجح ہے۔ سیاح حضرات سے پوچھئے کہ مصر، شام، اردن، بغداد و دیگر اکثر ممالک میں یہ طریقہ تاحال راجح ہے یہاں تک کہ ترک سلاطین کے دور تک یہ سلسلہ زوروں پر رہا۔

اسلام کا پرانا دشمن انگریز کیا جا چاہتا تھا وہی جو تاریخ کہتی ہے کہ دنیا میں اسلام پر دو بڑے کٹھن وقت آئے ایک وہ جب تاتاریوں نے مسلم ممالک کو ایک سرے سے دوسرے سرے کو وندڈا لادوسرا جب پہلی عالمی جنگ کے بعد یورپی اقوام نے سارے مسلم ممالک پر تسلط جمالیا تھا اس جنگ میں جرمن اور ترک شکست کھا گئے تھے۔ ان دنوں برطانیہ بہت طاقتور تھا آج امریکہ کو بھی وہ اقتدار حاصل نہیں بر طائفی وزیر اعظم اس بات پر تلاہوا تھا کہ ترکی نام کا کوئی ملک روئے زمین پر باقی نہ رہے بظاہر اس کی خواہش کے رستہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اتنا ترک نے موجودہ ترکی بچالیا۔ (نوابے وقت ۲۲ جولائی ۱۹۸۶ء)

درو دو سلام کا پہلا دشمن

یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ برطانیہ کی شہ پر نجدیوں نے حریم طبیین پر قبضہ جایا اور یہ بھی سب کو یقین ہے کہ نجدی نے ترکوں کے تمام جاری کردہ پروگرام مٹائے تاکہ آقائے برطانیہ کو تسلی ہو کہ واقعی نجدی حکومت وفادار ہے مثلاً قبیلہ ڈھائے، ہرم کے چار مصلیے بند کرائے، تبرکات کو ایک ایک کر کے مٹایا۔ من جملہ ان کے درودوسلام پڑھنے کو نہ صرف روکا بلکہ موذن کو شہید کرادیا چنانچہ الددرالسیعیہ صفحہ ۲۵ میں ہے

وكان ينْهَى عن الصلوة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وينادى من سمعها وينهى عن الجهر بها على المنائر
ويؤذى من يفعل ذلك ويُعاقب أشد العقاب حتى انه قتل رجلاً اعمى كان موذناً صالحاً ذا صوت
حسن نهاد عن الصلوة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ في المنارة بعد الاذان فلم يبنت واتى بالصلوة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فامر بقبلة فقتل ثم قال ان الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية اقل اثما مما ينادي بالصلوة على
النبي ﷺ في المنائر

محمد بن عبد الوہاب نجدی نبی پاک ﷺ پر درود پڑھنے سے روکتا بلکہ جہاں سے درود کی آواز سن پاتا دکھی ہوتا۔ مناروں پر درودوسلام پڑھنے سے روکتا تھا اور اس آواز اذان صلوٰۃ وسلام پر موذن کو سخت سزا دیتا یہاں تک کہ اس نے ایک ناپینا خوش آواز بہتر اذان پڑھنے والے کو شہید کر دیا۔ جب اسے روکا کہ منارہ پر اذان کے وقت صلوٰۃ وسلام نہ پڑھا کرو وہ موذن اس سے باز نہ آیا تو اسے شہید کرادیا اور کہتا تھا کہ گھر کی ڈھولک کی آواز میnarوں پر درودوسلام کی آواز سے بہتر ہے۔

فائده

یہ کتاب مفتی مکہ محدث احمد دحلان شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔
اہل اسلام خود فیصل فرمائیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اجراء درودوسلام اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی درودوسلام دشمنی میں آپ حضرات کوون سی ادا پسند ہے اور ساتھ ہی فیصل کرنا بھی لازمی ہے کہ ان میں گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون؟

فیصلہ از اہل سنت

ہم اہل سنت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علاوه دیگر کارناموں کے اس کارنامہ پر نہ

صرف مجہد کبیر بلکہ نازشِ اسلام مانتے ہیں اور محمد بن عبد الوہاب کو گراہ اور شیطان کا سینگ کہتے ہیں۔ عوام اہل اسلام درودِ دوسلام کے منکرین سے مذکورہ بالا دلوک فیصلہ کا مطالبہ کریں اگر وہ اس فیصلے سے بچپنا کیسی تو سمجھ لیں کہ ان کے دل میں کھوٹ اور دال میں کالا کالا ہے۔

سوال

وہی بات تو آگئی کہ یہ درودِ دوسلام بدعت ہے اور ایک بادشاہ کا جاری کردہ ہے جیسیں تو حدیث و قرآن کا فیصلہ چاہیے۔

جواب

فقیر پہلے قاعدہ عرض کر چکا ہے کہ اسلام نے ہمیں اصول دیے ہیں انہیں اپنانے کے لئے طریقے مختلف ہوں تو اس اسلام کا عین مدعای ہے چنانچہ اسی درودِ دوسلام کے لئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ کبریٰ جلد اصححہ ۱۳۱ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی قدس سرہ کو دعا کیں دینے اور ان کے اس عمل کو سراہنے کے بعد اسی سوال کا جواب لکھا کہ

ان الاصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر كما علم مماقراته الاحاديث

اصل سنت ہے اور طریقہ (کیفیت) بدعت ہے اور یہ ظاہر ہے جیسا کہ احادیث کی روشنی سے میں نے ثابت کیا۔ اور یہی قاعدہ اسلام کے اکثر احکام و مسائل میں جاری و ساری ہے۔ میں جیران ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجہد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کارنامہ سے تضاد ہے مگر جاج بن یوسف جیسے خونخوار ظالم کے بدعات قرآن مثلاً نقطے، اعراب (زیر، زیر، پیش، مد، ہش) اور تمیں پاروں کی تقسیم اور تمیں پاروں کے علیحدہ علیحدہ نام مقرر کرنے پر تسلیم خم کیوں صرف اس لئے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درودِ دوسلام کا اجراء کیا تو معلوم ہوا کہ انہیں صلاح الدین سے ضد نہیں درودِ دوسلام سے ضد ہے۔

مکرر سن لیں

دین و اسلام کا قاعدہ مذکورہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مخالفین کا یہ حرہ بے غلط ہے کہ یہ درودِ دوسلام صد یوں بعد راجح ہوا اگر اس پر مخالفین بضد ہیں تو ہمارا سوال ہے کہ مسجد کی محرابیں، مینار اور قرآن مجید کے اعراب صد یوں بعد اور نماز میں نیت لسانی تو چھٹی صدی کی پیداوار ہے۔ اسی طرح بکثرت دینی امور صد یوں بعد راجح ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ دو اور

”صدق اللہ العلی العظیم“ کے بعد پڑھنے کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تو صرف تمہیں درود وسلام سے ضد ہے؟

دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں
ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے

حل لغات

غفور، بروز ن رسول (مفقول) غفور بھی حضور اکرم ﷺ کا اسم گرامی ہے جس کی طرف تورات میں اشارہ ہے۔

غفر، چاند کی ۲۸ منزلوں سے پندرہ ہویں منزل کا نام ہے۔

شرح

حضور اکرم ﷺ دنیا اور مزار اور حشر میں ہر جگہ رحیم کریم ہیں۔ ہمارے چاند حبیب خدا ﷺ کی ہر منزل روشن و تاباں و نمایاں ہے۔

اس شعر میں علم نجوم کی اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ ہرن کے امام ہیں آپ کی تصانیف مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔

امریکی ہیئت وال البرٹ ایف پورٹا کی سائنسی پیشش گوئی اور اس کے نظریات کے رد میں امام احمد رضا نے معین میں بہر دور شمس و سکون ز میں نامی رسالہ کی تصنیف کی اور ان کے مقابلہ میں ایف پورٹا کے سارے اندازے اور اس کے مزاعمت غلط ثابت ہوئے۔

الكلمة لملهم الور فوز میں در در حکت ز میں ان کی دو مشہور کتابیں فوز میں میں انہوں نے گردش ز میں کے نظریہ کا ابطال کیا ہے۔ سائنس اور ریاضی ہی کے اصولوں اور نیوٹن و آئن سائن کے نظریات کو بھی کندھ کیا ہے۔

امام احمد رضا کی ریاضی اور سائنس میں مہارت و قابلیت کا لواہ ڈاکٹر سر رضاء الدین اور پروفیسر حاکم علی لاہوری جیسے ماہرین سائنس و ریاضی نے بھی مانا ہے۔ امریکی فاضلہ ڈاکٹر بار بر امکاف نے علی گڑھ کے پرانے و اس چانسلر ڈاکٹر سر رضاء الدین کی امام احمد رخا کی خدمت میں ڈاکٹر ریاضی کے لائل مسئلہ کے حل کرنے کے واقعہ کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ جس مسئلہ کے حل ڈاکٹر صاحب جرمنی کا سفر کرنے والے تھے۔

پروفیسر مسعود احمد، پروفیسر ابرار حسین، ایم حسن بہاری وغیرہ نے امام احمد رضا کی سائنس اور ریاضی میں جرأت

انگلیز مہارت پر مقابلے بھی لکھے ہیں جو مختلف جرائد و سائل میں شائع ہو چکے ہیں۔

اسی آپ نے حدائق بخشش شریف میں گاہے گاہے سائنسی اصطلاحات کو اپناتے ہیں۔ مجلہ ان کا ایک شعر یہ بھی ہے چند اشعار اور ملائیں تاکہ مزید تسلی ہو۔

نہ کوئی راہی نہ کوئی ساختی نہ سنگ منزل نہ مر جلتے تھے

سراغِ این و متیٰ کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا

(مابعد الطبعیات)

لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود

تم سے خدا کاظہور اس سے تمہارا ظہور

(منطق)

حداوسٹ نے کیا صغیری کو کبریٰ نور کا

ذرے ہر قدس تک تیرے تو سط سے گئے

(منطق)

جھرمٹ کئے ہیں تارے جلی قمر کی ہے

سعدِ دین کا قرآن ہے پہلوئے ماہ میں

ان پر درود جن کو جھر تک کریں سلام

ان پر سلام جن کو تھیت شجر کی ہے

حل لغات

جھر، ہر پتھر اور اس میں جھرا سو بھی داخل ہے۔ تھیت (عربی) سلام کرنا۔

شرح

اس ذاتِ گرامی (صلوات اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام جن کو ہر شے سلام عرض کرتی ہے یہاں تک بے جان ڈھیلے اور پتھر بھی اور ان پر سلام جنہیں درخت بھی سلام عرض کرتے ہیں۔

جھر (پتھر) سلام عرض کرتے ہیں

متعدد روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پتھروں نے صلوٰۃ وسلام بزبان قال عرض کئے۔ متعدد مقامات میں شرح ہذا میں فقیر نے جھر و شجر کے سلام عرض کر دیے۔

ان پر درود جن کو کس بیکاں کہیں

ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے

حل لغات

کس (ہندی) زور، طاقت۔ بکیساں، بے زور اور بے طاقت لوگ یعنی عاجز و غریب لوگ۔ کس بکیساں کی طرف مضاف ہے۔

شرح

اس محبوب خدا ﷺ پر درود جن کو عاجز و غریب لوگوں کا سہارا کہا جاتا ہے اور ان پر سلام جنہیں تمام بے خبر لوگوں کی خبر ہے۔

اس شعر میں دو مسئلے بیان فرمائے ہیں

(۱) بکیسوں کے کس (۲) ہر ایک سے باخبر

مسئلہ اولیٰ

بے شمار واقعات میں سے ایک حوالہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

سبب تالیف قصیدہ برده

مؤلف قصیدہ برده شریف پہلے مصر کے شہر بلہیس میں عامل و میراثی تھے پھر اس عہدے کو چھوڑ دیا اور قطب وقت شیخ ابوالعباس مریم اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی۔ جن کے فیض سے آپ یگانہ روزگار بن گئے اور وہ شہرت حاصل کی کہ ہم عصر وہ میں کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ مجملہ آپ کے قصائد کے یہ قصیدہ برده ہے جس کا سبب تصنیف آپ یوں بیان فرماتے ہیں میں نے رسول ﷺ کی مدح میں بہت سے قصیدے لکھے جن میں سے بعض وزیر زین الدین یعقوب بن زبیر کی درخواست پر تصنیف ہوئے بعد ازاں ایسا اتفاق ہوا کہ میں مرضِ فانج میں بنتا ہو گیا اور اس سے میرا نصف بدن بیکار ہو گیا۔ اطباء نے معالجہ میں بہتیری مذکور ہے کیس مگر کوئی آخر کار بھی میں آیا کہ حضور اکرم ﷺ کی مدح میں ایک اور قصیدہ لکھوں چنانچہ بیماری ہی میں یہ قصیدہ تیار کیا۔ اسے رات کوئی بار پڑھا اور بتول حضور اکرم ﷺ باری تعالیٰ میں دعا کی اور سو گیا (اب دیکھئے احمد بن مختار کی مسیحی اور محمد عربی کی چارہ فرمائی) خواب میں زیارت ہوئی حضور اکرم ﷺ نے اپنا دست شفاء میرے بدن کے مفلوج حصہ پر کھا اور مجھے اپنی برده مبارک (چادر) اڑھائی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں بالکل صحیح و تندرست و رچاق و چست ہوں میں نے اس قصیدے کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا مگر جب صحیح کو اٹھ کر گھر سے نکلا تو راستے میں ایک درد لیش نے مجھ سے کہا کہ وہ قصیدہ مجھے عنایت فرمائیے جو تم نے رسول ﷺ کی مدح میں لکھا ہے۔

میں نے جواب دیا حضور اکرم ﷺ کی مدح میں میں نے بہت سے قصیدے لکھے ہیں آپ کوں ساقی صدہ طلب فرماتے ہیں وہ بولے کہ جو تم نے بحالت مرض لکھا ہے اور جس کا مطلع یہ ہے ”**أَمْنٌ تَذَكَّرُ جِيْرَانٌ بِذِيْ سَلَمٍ**“ اور یہ بھی فرمائی کہ خدا کی قسم رات کو بھی قصیدہ میں نے دربارِ نبوی میں سنائے ۔ جب یہ پڑھا جا رہا تھا تو نبی کریم ﷺ اس کو سن کر یوں جھوم رہے تھے جیسا کہ باڈشم کے جھونکے سے میوہ دار درخت کی شاخیں جھوما کرتی ہیں ۔ امام بوصیری نے اس درویش کو یہ قصیدہ دے دیا اس نے لوگوں سے ذکر کر دیا یہاں تک کہ ملک ظاہر شاہ مصر کے وزیر بہاؤ الدین علی معروف ہے ابن حنامصری (متوفی ۴۵۴ھ) کو اس کی خبر لگی ۔ اس نے میری طرف پیغام بھیجا اور اس قصیدے کو منگوایا اور قسم کھائی کہ میں اس قصیدے کو کھڑے ہو کر سر برہنہ سنائیں گا چنانچہ وزیر موصوف اور اس کے گھروالے اسے بڑی رغبت و محبت سے سنائے جس کے بعد جب سعد الدین فاروقی (متوفی ۴۹۰ھ) فصیح و بلigh شاعر قہار ضردم سے قریباً انہا ہو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تم وزیر بہاؤ الدین کے پاس جاؤ اس سے برداں لے کر اپنی آنکھوں پر رکھوں باذن اللہ تم کو آرام ہو جائے گا ۔ اس لئے وہ موصوف کی خدمت میں آیا اور اس سے اپنا خواب بیان کیا وزیر نے جواب دیا کہ میرے پاس حضور اکرم ﷺ کی برداں مبارک نہیں پھر کچھ دیر کے بعد سوچ کر کہا کہ شاید اس سے مراد امام بوصیری کا قصیدہ برداں ہے اور صندوق میں سے قصیدہ نکال کر اس کے حوالہ کر دیا ۔ سعد الدین نے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا تو فوراً آرام ہو گیا ۔ (فوات الوفیات للعلامة محمد بن شاکر بن احمد)

ہربے خبر سے خبر

یہاں آیت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

**وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفْيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَظُوا بِهِمْ ۝** (پارہ ۲۸، سورہ الجمعۃ، آیت ۲، ۳)

اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور پیش کر دیا اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے ۔

فائدة

اس آیتہ شریفہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابہ کرام کے بعد والے لوگوں کو بھی حضور اکرم ﷺ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ان ہر ایک کو جانتے ہیں تو تعلیم دیتے ہیں ۔

حوالہ جات تفاسیر

تفصیر قرطبی میں اسی آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

و يعلم آخرین من المؤمنين؛ لأن التعليم إذا تناهى إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكانه هو الذى تولى كل ما وجد منه (لَمْ يَلْحُقُوا بِهِمْ) أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيرون بعدهم قال ابن عمرو سعيد بن جبیر لهم العجم وقال مجاهد هم الناس كلهم يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد ومقاتل بن حيان قال هم من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيمة. (تفصیر قطر طبی جلد اول صفحہ ۹۲ مطبوعہ بیروت)

نبی پاک ﷺ مونوں کو بھی جو بعد میں آئیں گے کیونکہ جب آپ کی تعلیم آخری زمانہ تک قائم رہے گی تو وہ آپ ہی طرف منسوب ہوں "لَمَّا يَلْحُقُوا بِهِمْ" مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانہ میں نہ تھے اور آپ کے بعد آئیں گے جب حضرت عبد اللہ بن عمر اور سعيد بن جبیر نے کہا کہ وہ عجیب لوگ ہیں اور مجاهد نے کہا اس سے مراد عرب کے بعد وہ تمام لوگ جو حضور اکرم ﷺ پر ایمان لائے اور ابن زید اور مقاتل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم ﷺ کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔

تفصیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ

إِنَّمَا يَلْحُقُهُمْ بَعْدَ وَسْلَكَهُمْ وَهُمُ الَّذِي جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(تفصیر روح المعانی جلد اول صفحہ ۹۲، ۹۳ مطبوعہ بیروت)

یعنی جو لوگ ابھی تک صحابہ کرام کے ساتھ لا حق نہیں ہوئے اور عنقریب لا حق ہوں گے یہ لوگ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر قیامت تک کے مسلمان ہیں۔

تفصیر مدارک التزیر میں فرماتے ہیں

إِنَّمَا يَلْحُقُهُمْ بَعْدَ وَهُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَوْ هُمُ الَّذِينَ يَاتُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى

یوم الدین

یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک صحابہ کرام سے لا حق نہیں ہوئے اور صحابہ کرام کے بعد آئیں گے یا وہ لوگ ہیں جو یوم قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔

تفسیر ابن جریر میں اسی آیتہ کریمہ کے تحت فرمایا ہے

وَقَالَ الْخَرُونَ إِنَّمَا عَنِ الْأَكْثَرِ جَمِيعُهُمْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ كَائِنًا مِنْ كَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
او بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ”وَآخَرِينَ مِنْهُمْ“ قیامت تک اسلام لانے والے لوگ مراد ہیں خواہ وہ کوئی بھی
ہوں۔

فائدة

علامہ ابن جریر علیہ الرحمۃ نے حدیث نبوی بھی درج فرمائی ہے

قال ابن زید فی قول الله عزوجل ”وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ“ بهم قال هؤلاء کل من كان
بعد النبي ﷺ إلى يوم القيمة کل من دخل في الإسلام من العرب والعجم.

ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے قول ”وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ“ کی تفسیر میں فرمایا یہ وہ قیامت تک کے
لوگ ہیں جو حضور ﷺ کے بعد ایمان لائے خواہ عربی یا عجمی۔

علامہ شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ

لیس احد ينال علماً فی الدنيا الا وهو من باطنية محمد ﷺ سواء الانبياء والا ولیاء المتقدمون

علی بعثه والمتاخرون عنه

دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر وہ حضرت محمد ﷺ سے مستفید ہے خواہ انبیاء کرام ہوں اور اولیاء خواہ پچھلی شریعتوں کے
ہوں یا اس شریعت کے۔

فائدة

یہی علامہ شعرانی علیہ الرحمۃ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے

اما القطب الواحد المهد الجميع الانبياء والرسل والاقطاب من حين النشء الانسانی إلى يوم

القيامة فهور وروح محمد ﷺ. (ایقاۃت والجواہر جلد ۲ صفحہ ۸۲ مطبوعہ مصر)

بہر حال قطب واحد اور تمام انبیاء اور رسولین اور تمام اقطاب کی ابتداء انسانیت سے لے کر قیامت تک مدگار روح محمد
علیہ السلام ہیں۔

جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام
یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے

شرح

اے حبیب کریم، رؤوف رحیم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ تمام جن و بشر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں۔ اس لئے کہ یہ بارگاہ وہ ہے جو جن و بشر کی مالک ہے کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ تو جس طرح بعض انسان باوفاء اور آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ایسے ہی جنات بھی ایسے ہی جیسے بعض انسان آپ کی غلامی اور نیازمندی سے محروم ہیں ایسے ہی بعض جنات کے بے شمار واقعات ہیں اور بارہ فقیر نے اسی شرح حدائق میں لکھی بھی ذیل میں واقعہ ملاحظہ ہو۔

جن پکڑا کیا

علامہ قسطلانی اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ۱۸۵ھ میں زیارت شریف کے بعد میں مصر کو آرہا تھا کہ مکہ کے راستے میں ہماری خادمہ غزال جب شہ پر کئی روز آسیب کا اثر رہا۔ اس بارے میں میں نے نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے استغاثہ کیا خواب میں ایک شخص نظر آیا جس کے ساتھ وہ جن تھا اس نے کہا کہ اس جن کو رسول اللہ ﷺ نے آپ کے پاس بھیجا ہے میں نے اس جن کو ملامت کی اور اس سے حلف لیا کہ آنکندہ اس خادمہ کے پاس نہ آئے گا۔ میری آنکھ کھلی تو خادمہ پر آسیب کا کچھ اثر نہ تھا گویا اس کو قید سے رہا کر دیا گیا ہے وہ عافیت میں رہی یہاں تک کہ میں نے ۱۹۲ھ میں اس کو علیحدہ کر دیا۔

شم و قمر سلام کے حاضر ہیں السلام
خوبی انہیں کی جوت سے شمش و قمر کی ہے

حل لغات

جوت (ہندی، ہونڈ) روشنی، اجالا، شعلہ، آنکھ کی روشنی، چمک، دیوا، دولت، رُخ۔

شرح

سورج اور چاند بھی سلام کو حاضر ہیں اس لئے سورج اور چاند کو جو رونق نصیب ہے وہ بھی آپ کے نور مبارک سے ہے۔

سب بحودر سلام کے حاضر ہیں السلام
تملیک انہیں کے نام تو ہر بحودر کی ہے

حل لغات

تملیک، مالک کرنا کسی شخص کو مال یا کسی چیز کا۔

شرح

تمام دریا اور جنگلات حضور اکرم ﷺ کو سلام عرض کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نام تمام بحودر تملیک کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں تمام چیزوں کا آپ کو مالک بنایا ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (پارہ ۳۰، سورہ الکوثر، آیت ۱)

اے محبوب بیشک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

مفسرین نے فرمایا

الْكَوْثَرُ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ كثرة مفرطة شئٍ كثيرٍ

اور کثرت بیہد اس معنی پر آیتہ کریمہ کا معنی ہو گا اے محبوب ﷺ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہ معنی مفسر امت صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسند مذکور ہے انہوں نے ارشاد فرمایا

الکوثر هو الخير الكثير كله

ہر قسم کی بھلائی اور بہتری کوثر کے عموم میں داخل ہے۔ دنیا و آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس عموم سے خارج ہو یا اسی لئے بحودر ہوں یا عالم علوی کی اشیاء یا سفلی کی سب آپ کے ملک میں ہیں۔

حوالہ جات

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» کے تحت فرماتے ہیں

والا ظهر ان جميع نعم الله داخلة في الكوثر ظاهرة وباطنة فمن الظاهرة خيرات الدنيا والآخرة
ومن الباطنة العلوم اللدنية الحاصلة بالفيض الا لھی بغیر اکتساب بواسطۃ القوى الظاهرة والباطنة
زیادہ ظاہر اور راجح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ظاہر ہوں یا باطنہ الکوثر میں داخل ہیں نعم ظاہر ہے میں دنیا و آخرت کے
انعامات داخل ہیں اور نعم باطنہ میں وہ علوم و معارف لدنیہ داخل ہیں جو محض فیض خداوندی سے حاصل ہوئے اور ظاہری و

باطنی قوت اور جو اس کو ان کے حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔

امام رازی علیہ الرحمۃ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا

المراد من الكوثر جميع نعم الله تعالى على محمد عليه السلام وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن لفظ الكوثر يتناول النعم الكثيرة فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من

حملها على الباقي فوجوب حملها على الكل

الکوثر سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو عطا فرمائی ہیں یہی معنی مفسراً مرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور عقلی طور پر یہی معنی متعین ہے کیونکہ لفظ کوثر بے شمار نعمتوں کو شمار ہے اور بہت سارے معانی کا محتمل ہے لہذا ان نعمتوں سے بعض نعمتیں اور ان بے شمار معانی میں سے بعض معانی مراد لیں ادا دوسرا سے معانی کو ترک کر دینا "ترجیح بلا مردح" اور تخصیص بلا مخصوص ملانے کی وجہ سے موزوں اور مناسب نہیں لہذا ایسا معنی مراد ہونا چاہیے اور اس آئیت کریمہ کو ایسے معنی پر محمول کرنا چاہیے جو تمام نعمتوں اور سب معانی محتمله کو شامل ہو لہذا الکوثر سے "الخير الكثير كله" اور "جميع نعم الله على محمد" مراد ہے۔

علامہ محمود آلوی صاحب روح المعانی نے فرمایا

قال جماعة الكوثر الخير الكثير والنعم الدنيوية والاخروية من الفضائل والفضائل ورواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد و هو المشهور من الخبر ابن عباس وقد اخرج البخاري وابن حجر و الحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه انه الخير الكثير الذي اعطاه

الله ايته عليه الصلوة والسلام

مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ الکوثر بمعنی خیر کثیر اور نعم دینویہ و اخرویہ ہے خواہ وہ رسول اکرم ﷺ کی ذاتی خصوصیات و اوصاف ہوں یا ان کے طفیل ساری مخلوق تک پہنچنے والے انعامات و عطیات ابن جریر اور ابن عساکر نے حضرت مجاهد سے یہی معنی نقل کیا ہے اور یہی حضرت ابن عباس سے بھی مشہور ہے۔ امام بخاری، ابن جریر اور حاکم نے ابی بشر سے اور انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل فرمایا ہے الکوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو عطا فرمائی ہے۔

سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام
کلمے سے تو زبان درخت و ججر کی ہے

شرح

حجر و شجر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کو حاضر ہیں اور یہ حال کیفیت سے نہیں بلکہ قل ہے کہ
”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ“ کے کلمات سے درختوں اور پھردوں کی زبان تر ہے جن کے کلمات صاف طور پر سنے
گئے۔

پتھروں کا سلام

ابوداؤد نے حارث بن ابی اسامہ سے اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا
رسول ﷺ نے فرمایا شق صدر کے بعد شجر و ججر (درخت اور پھر) کے پاس سے میں گزرتا تو وہ مجھے کہتے
السلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم
اس قسم کے بے شمار واقعات شرح حدائق جلد اول، دوم میں بیان کئے گئے ہیں۔

حجر و شجر سلام

دارمی، یہیقی، ابو نعیم نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی حضور اکرم ﷺ کے خواص سے ایک خصلت یہ تھی کہ آپ
جس راستے سے تشریف لے جاتے وہ راستہ آپ کی خوببوسے مہک جاتا آپ تک پہنچنے میں رہبری کرتا آپ کے تلاش
کرنے والے کو معلوم کرنے کی ضرورت نہ ہوتی صرف خوببوسے آپ تک پہنچ جاتا آپ جس راستے سے گزرتے شجر و ججر
آپ کو مدد و سلام عرض کرتے۔ (جیۃ اللہ علی العالمین)

عرض و اثر سلام کو حاضر ہیں السلام
بلجیا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے

حل لغات

عرض (عربی) گزارش، بیان وغیرہ۔ اثر (عربی) تاثیر وغیرہ۔

شرح

خود گزارشات اور ان کی تاثیر بارگاہ رسول ﷺ میں سلام کے لئے حاضر ہیں کیون نہ ہو یہ بارگاہ دعا و تاثیر کی

ماوی و مجائے ہے۔

شوریدہ سر سلام کو حاضر ہیں السلام
راحت انہیں کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے

حل لغات

شوریدہ سر، دیوانہ، سودائی۔

شرح

دیوانے سودائی آپ کی بارگاہ میں بہر سلام حاضر ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں ہی ہر دیوانے اور سودائی کو راحت اور قرار نصیب ہوتا ہے۔

شوریدہ سروں کے واقعات

بے شمار واقعات میں سے چند عرض کر دوں شاید ان کے طفیل ہمیں بھی اس درگاہ شوریدہ سری نصیب ہو۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی سال مجھے ایک بیماری لاحق رہی جس کے علاج سے اطباء عاجز آگئے میں نے ۲۸ جمادی الاولی ۸۹۳ھ کی رات مکہ مشرفہ میں نبی کریم ﷺ سے استغاثہ کیا خواب میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک کاغذ ہے اس میں لکھا ہے کہ یا احمد بن عسقلانی کی دوا ہے جب میری آنکھ کھلی تو واللہ میں نے اس بیماری کا کوئی نشان نہ پایا اور نبی کریم ﷺ کی برکت سے شفاء حاصل ہو گئی۔

فائده

یہ استغاثہ مراز کے قریب نہیں بلکہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے شہر ملک مصر سے تھا اور بحمدہ تعالیٰ اب بھی کوئی تہبدل سے اس طرح کا استغاثہ کرے تو سودا نقد ہے ادھار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

علامہ یوسف بہانی نقش فرماتے ہیں کہ کثیر بن محمد بن رفاعة نے بیان کیا کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید بن خیار بن جبر کے پاس آیا اُس نے اُس شخص کا پیٹ ٹھوٹا اور کہا کہ تجھے لاعلاج بیماری ہے اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے؟ ابن جبر نے کہا کہ دبیلا یہ سن کر وہ لوٹ آیا اور اس نے تین بار یوں دعا مانگی

اللہ اللہ ربی لا اشرک به

اللہ اللہ میرا پور دگار ہے

یہ دعا پڑھی تو اس کے بعد بیمار شفاء یاب ہو گیا۔

فائدہ

مکمل دعا فقیر کی تصنیف ”ندائے یار رسول اللہ ﷺ“ میں پڑھتے۔

دریا میں ڈوبنے سے بچالیا

سیدی ابوالعجاس مریٰ کا بیان ہے کہ میں جہاز پر سوار ہو گیا طاطم کے سبب ہم ڈوبنے لگے میں نے ہاتھ اٹھا کر

یوں دعا کی

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ إِلَّا مَا انْقَذْتَنِي وَسَلَّمْتَنِي

یا اللہ تو اپنے نبی مصطفیٰ ﷺ کے طفیل مجھے بچ لے اور سلامت رکھ۔

میں اس دعا سے فارغ نہ ہوا تھا کہ مجھے جہاز کے گرفتہ نظر آئے جنہوں نے مجھے سلامتی کی بشارت دی میں

نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تم کل صحیح سالم موضع مریٰ میں پہنچ جاؤ گے۔ (جامع الکرامات مصباح

الظلام جزء اول صفحہ ۲۷)

خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام
مرہم یہیں کی خاک تو خستہ جگر کی ہے

حل لغات

خستہ، زخمی، گھائل، رنجیدہ، بھر بھرا، پریشان، مفلس۔ مرہم، چکنی، دوائی جو پھاہے پر لگا کر زخم پر چپکائی جاتی ہے۔

شرح

پریشان حال اور زخمی برائے سلام حاضر ہیں اس لئے کہ زخمی جگروں کی مرہم یہاں کی خاک مبارک ہے۔

سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام
یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے

شرح

تمام خشک و تر سلام کو حاضر ہیں یہ خشک و تر کے مالک کی جلوہ گاہ ہے۔

سب کروفر سلام کو حاضر ہیں السلام
ٹوپی یہیں تو خاک پہ کروفر کی ہے

حل لغات

کروفر، رعب، شان، دھوم، ٹھاٹ۔

شرح

تمام کروفر یعنی ہر شان و شوکت سلام کے لئے حاضر ہے کیوں نہ ہو جب کہ ہر کروفر کی عجز و نیاز کی جگہ یہی آستان پاک ہے۔

اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام
یہ گرد ہی تو سرمه سب اہل نظر کی ہے

شرح

تمام اہل نظر سلام کے لئے حاضر ہیں اس آستان پاک کی گرد و غبار اہل نظر کے لئے سرمه ہے۔

آنسو بہا ک ب گئے کالے گنے کے ڈھیر
ہاتھی ڈوباؤ جھیل یہاں چشم تر کی ہے

شرح

کالے گناہوں کے ڈھیر آنسو بہاتے ہو روکر بہہ گئے اس لئے کہ یہاں ہمارے کریم ﷺ امت کی بخشش کے لئے آنسو بہائے ہیں وہ الیسی جھیل ہے جس میں ہاتھی بھی ڈوب جائیں یعنی آپ کے گریبی کی برکت سے گنہگاروں کے گناہ دھل جائیں گے خواہ وہ کتنے ہی ان گنت ہوں۔

تیری قضا خلیفۃ الحکام ذی الجلال
تیری رضا خلیف قضا و قدر کی ہے

حل لغات

قضا، حکم۔ خلیفہ، نائب۔ خلیف، وہ دوست جن میں ہمیشہ دوستی رکھنے کا حلف ہو گیا ہو۔

شرح

اے حبیب کریم ﷺ آپ کا حکم تو ذوالجلال والا کرام جل مجدہ الکریم کے احکام کا نائب اور خلیفہ ہے اور آپ کی رضا قضاۓ الہی اور تقدير ربانی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے جو چاہا ہی ہوا۔

حضرور اکرم ﷺ نے طفیل بن عمرو دوستی کو تبلیغِ اسلام کے لئے سمجھنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی ایسی مخصوص علامت اور کرامت ہونی چاہیے جس سے لوگ مجھے حضرور اکرم ﷺ کا بھیجا ہوا مبلغ سمجھ سکیں اور میری بات کو تسلیم کر لیں تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلی مبارک اس کے ماتھے پر دو آنکھوں کے درمیان رکھ دی وہ جگہ نورانی ہو گئی اور چکنے لگی۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور لوگ برس کا داغ خیال نہ کریں اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں آپ نے ان کی چھڑی کو اس جگہ پر رکھا تو وہ نور اس چھڑی میں منتقل ہو گیا اور وہ چکنے لگی۔ (مدارج)

فائدة

بعض لوگ حضور اکرم ﷺ کی نورانیت کے متعلق پس و پیش کرتے ہیں لیکن یہاں تو آپ کا نور ہونا ثابت ہو رہا ہے اور اختیار کا حال یہ ہے کہ جہاں چاہا نور کھا اور جہاں سے چاہا اٹھا لیا۔ حضرت طفیل دوستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کہ اس کے ماتھے میں نور کھا پھر ان کے عرض کرنے پر ماتھے سے نور نکال کر چھڑی سے چمنا دیا۔

یہ پیاری پیاری کیاری ترے خانہ باغ کی
سرداس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے

حل لغات

کیاری، کھبیت کا ہر ایک چھوٹا حصہ جو پانی دینے کے لئے بنائیں۔

شرح

اے عبیب کبریا، شہ ہر دوسرے ﷺ آپ کے گھر کے باغ کی یہ جو پیاری پیاری کیاری ہے آتش سقر اس کی آب و تاب کو دیکھ کر سرد پڑ گئی ہے۔

جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی
شکر خدا نوید نجات و نظر کی ہے

حل لغات

نوید (فارسی) خوشخبری، بشارت۔

شرح

جو ایک بار بہشت میں داخل ہو پھر اسے دوزخ میں جانا نہیں ہو گا۔ الحمد للہ یہ نجات و فتح مندی کی خوشخبری ہے

چونکہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ دوسرے خوش قسمت مسلمانوں کی طرح ریاض البختی شریف میں حاضر ہوئے تو افل دو گانے پڑھے اس پر آپ نے فرمایا ”جنت میں آکے اخ“

فائدة

حضور اکرم ﷺ کے مزار انور و مزار اطہر کے بیچ میں جوز میں ہے اس کی نسبت ارشاد فرمایا کہ
روضہ من ریاض الجنۃ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری

مصرعہ ثانی رسول کے کرم پر بھروسہ کر کے ایک مدل تمنا ہے یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ مقام جنت کی کیاری ہے اور اللہ رسول نے محض اپنے کرم سے محتاجوں کو یہاں جگہ دی، یہاں نمازیں پڑھنی فصیب کیں تو محمد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں جا کر پھر کوئی نار میں نہیں جاتا تو امید ہے کہ اب ہم نار کا مونہ نہ دیکھیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

ریاض الجنۃ

متصورہ شریف کے دائیں جانب سوائے مغرب منبر مبارک سے متصورہ شریف کی حد تک جگہ کو روضۃ الجنۃ کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے

ما بین بيته ومنبری روضۃ من ریاض الجنۃ۔ (طبقات ابن سعد جلد اصحفہ ۳۵۳)

میرے منبر اور میرے چھرے کے درمیان کا حصہ جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ ہے۔
یہ حصہ تقریباً پانچ ذراع (عربی) ہے۔

مومن ہوں مومنوں پر روف و رحیم ہو
سائل ہو سائلوں کی خوشی لانہر کی ہے

شرح

پہلے مصرع میں ”بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَّقَرِيئِيمٌ“ کی طرف تلبیح تھی یہاں آیتہ کریمہ ”وَ أَمَّا السَّأِيلُ فَلَا تَنْهَرْ“ کی طرف اشارہ ہے یعنی ”اور منگتا کونہ جھٹکو“ ”لَا تَنْهَرْ“ کے معنی کے جھٹکنا یہیں ہے ہر کلمہ ثلاثیٰ حلقو اعین مثل شعر و نهر و بعروز ہر میں تسلیک و تحریک عین دونوں مطروہ ہیں۔ (حاشیہ حدائق)

شعر میں دو آیتیں پیش کر کے آقا کریم ﷺ سے استحقاق لطف و کرم کا اظہار کیا۔ آیت اولیٰ پارہ اسورة توبہ آیت

کامضیوں یوں ہے ۱۲۸

مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان

”بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَّفٌ رَّحِيمٌ“

فائده

اور لوگ تو اپنی اولاد کی خیر کے حرص کے ہوتے ہیں مگر یہ رسول رحمت اپنی امت کی خیر پر حرص ہیں اسی لئے راتوں کو سب سوتے ہیں مگر رحمت والے اپنی امت کے لئے مہربان ہیں، مومنین پر کتنے ہیں مہربان ہیں اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے لگائیے
تفاسیر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آیت ذیل لائے

وَإِنْ مُنْكِمُ إِلَّا وَارِدُهَا إِنَّمَا عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْعِدِيًّا

ثُمَّ نَنْجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئْشًا ۝ (پارہ ۱۳، سورہ الحجر، آیت ۲۷)

اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور تھیری ہوئی بات ہے۔ پھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھنٹوں کے بلگرے۔

تو یہ سن کر نبی رحمت کو اپنی امت کا خیال آگیا۔ چشم ان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر اسی غم امت میں روئے ہوئے جب مساجد کے دامن میں شنگ و تاریک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سر سجود ہو کر بارگاہ رب العزت میں اپنی امت کی بخشش کے لئے دعا مانگنے لگے سر کار تو غار میں دعا فرمائے تھے جب کہ صحابہ کرام آپ کے فراق میں اشکبار تھے۔ اسی عالم حزن و ملال میں ایک صحابی سر کا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں ایک چڑواہا بکریاں چڑا رہا تھا چنانچہ اس صحابی نے چڑواہے سے پوچھا کہ تو نے میرے آقا حضرت محمد ﷺ کو یہاں سے گزرتے تو نہیں دیکھا چڑواہے نے جواب دیا (بیان شاعر)

میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہیں لیکن

من نمی دانم محمد نام کیست

ایک نئی بات میرے علم میں آئی ہے

زار می نالد کسے لیل و نہار

ایں قدر دانم کہ اندر قیرہ غار

کے اندر ہیری غار میں کوئی دن رات روتا ہے۔

میں کند با گریہ هر ساعتی نالہ ہائے امتی امتی

اور گریہ وزاری کے ساتھ امتی امتی کہدا ہے

از چراکردن دهن پابستہ اند

جانور از نالہ او حستہ اند

اور جانوروں نے اس کی پریشانی سے کھانا پینا چھوڑ کھا ہے۔

فائدة ۵

اس واقعہ کی مزید تفصیل و تشریح فقیر کی شرح مشنوی یعنی صدائے نوی میں پڑھئے۔

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت اکرم ﷺ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی

رَبِّ إِنَّهُ أَصْلَلَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ إِنَّمَنْ تَبْغِي فَإِنَّهُ مِنِّيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(پارہ ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت ۳۶)

اے میرے رب بیٹک بتوں نے بہت لوگ بہکادیئے تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے کہا نہ مانا تو بیٹک تو بخشے والامہربان ہے۔

اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رہ، سورہ المائدہ، آیت ۱۱۸

اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخشن دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔

پس آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی "اللہم امتی امتی" اللہ میری امت کو بخشن دے،

میری امت کو بخشن دے۔ پھر آپ پر گریہ طاری ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان

سے معلوم کرو (حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے) کان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے پس حضرت جبریل آپ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان

سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشنیش کے معاملہ میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو نجیبدہ نہیں کریں گے۔

سرکار ﷺ اپنی امت پر اس قدر شفیق و مہربان ہیں کہ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سرکار ﷺ کو

قبرا نور میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے لب

ہائے مبارک حرکت کر رہے تھے میں نے اپنے کانوں کو نزدیک کر کے سناتو آپ فرمادے تھے "اللہم اغفر لامتی" اے

اللہ میری امت کو بخشن دے۔ میں نے یہ بات سب حاضرین کو سنائی تو اس شفقت امت پر سب دنگ رہ گئے۔ شب

معراج وبروز محشر بھی آپ کی غنواری دیا گاری امت کے واقعات کسی باخبر پر مخفی نہیں۔ حق ہے جس کے لب پر ہامتی یا داس کی نہ بھولو نیازی کبھی

وہ کہیں امتنی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضری تیری چاکری کے لئے

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم

دامن کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا

مجھ کو تو شاق جاڑوں میں اس دوپہر کی ہے

حل لغات

شاق، بخت، اجیرن، کٹھن، ناگوار۔ جاڑوں، جاڑا کی جمع، سردی کا موسوم، ٹھر، سردی۔

شرح

اے حبیب کریم ﷺ اپنے کریم دامن کا واسطہ مجھے میدانِ حشر کی دھوپ سے بچا میں تو یہاں دنیا میں اتنا نازک مزاج ہوں کہ موسم سرما میں بھی دوپہر کی گرمی مجھے ناگوار ہے تو قیامت کی گرمی میں میرا کیا بنے گا۔

ماں دونوں بھائی بیٹی بنتجی عزیز دوست

سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے

شرح

والدہ کریمہ دونوں بھائی بیٹی اور بنتجی تمام عزیز دوست سب آپ کے پر درکر کے آیا ہوں اس میں میرا تو ذاتی کوئی دخل نہیں وہ تمام آپ کے گھر کی ملک ہیں۔ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حج ٹانی کی تفصیل خود بیان فرمائی کہ روانگی پر مذکورہ بالاحضرات کو گھر پر چھوڑا تھا اب بارگاہ حبیب ﷺ میں ان کی خیر و سلامتی کی دعا فرمار ہے ہیں۔

جن جن مرادوں کے لئے احباب نے کہا

پیش خیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے

شرح

جو مرادیں دعا کیں احباب نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا کہا تھا آپ کے پیش ہیں آپ خود ہی باخبر ہیں مجھے ان کے اظہار اور خبر دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔

امام محمد ابن حاج کی مدخل جلد اصفہن ۳۱۵ اور امام احمد قسطلانی مواہب الدینیہ مع شرح زرقانی صفحہ ۳۲۸ اور انہے دین رحیم اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں

لفرق بین موتہ و حیاتہ ﷺ فی مشاہدته لا امته و معرفتہ یا حرالهم و نیاتهم و عزائمهم و خواتوہم
و ذالک عنده جلی لا خفاء به

حضور اکرم ﷺ کی حیات وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے اردوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور پر ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔

امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلمیذ امام محقق ابن الہام نک متوسط علی قاری کی کی شرح مسلک منتقط میں فرماتے ہیں
انہ ﷺ عالم بحضورک و قیامک و سلامک ای بجمعیح احوالک و افعالک و احوالک و احوالک و مقامک
بے شک رسول اللہ ﷺ تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال و احوال و کوچ
و مقام سے آگاہ ہیں۔

فضلِ خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں
اس پر شہادت آیت و وحی واثر کی ہے

حل لغات

وہی سے مراد بد لیل مقابلہ وہی غیر مقلوب یعنی احادیث نبی ﷺ اور اثر اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

شرح

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم ﷺ کے لئے تمام غیوب بمنزلہ شہادت (سائنس) کے ہو گئے اس دعویٰ کی دلیل قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور علمائے امت اور اولیائے امت کا بھی عقیدہ ہے۔

آیات مبارکہ

متعدد آیات سے صراحت و کنایہ و اشارہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو غیوب کے علوم سے نوازا ہے۔

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ (پارہ ۲، سورہ البقرہ، آیت ۱۳۳)

اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

رسول اللہ مطلع است بنور نبوت بر دین هر متدين هدین خود که در کدام درجه از دین من رسیده و حقیقت ایمان اوست و حجایی که بدان از ترقی محبوب مانده است کدام است پس ادمی شناسد گناهان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال بلوغیک شمارا و اخلاق و نفاق شمارا لہذا شهادت را در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول واجب العمل است

یعنی حضور اکرم ﷺ اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے۔ پس حضور اکرم ﷺ تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے نفاق و اخلاص کو پہنچانتے ہیں لہذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب لعمل ہے۔

احادیث مبارکہ

بے شمار احادیث مبارکہ اس دعویٰ پر دلیل ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

ان الله رفع لى الدنيا الخ

مشہور حدیث ہے اس کی شرح علامہ زرقانی شرح مواہب جلد ۷ صفحہ ۲۳۲ میں لکھتے ہیں کہ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ أَيَّ أَظْهَرَ وَكَشَفَ لِي الدُّنْيَا بِحِيثَ أَحْطَطَتْ بِجُمِيعِ مَا فِيهَا فَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ

كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّمَا أَنْظَرَ إِلَى كُفَّى هَذِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ نَظَرٌ حَقِيقَةٌ دُفِعَ بِهِ احْتِمَالُ أَنَّهُ

أَرِيدَ النَّظَرُ الْعِلْمُ

یعنی ہمارے سامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم نے اس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا پس ہم اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو اس میں اشارہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حقیقتہ ملاحظہ فرمایا کہ یا احتمال دفع ہو گیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔

امام احمد قسطلانی مواہب شریف میں فرماتے ہیں

وَلَا شَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَزِيدٍ مِّنْ ذَلِكَ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

اس میں شک نہیں کہ اللہ نے حضور ﷺ کو اس سے بھی زیادہ پر مطلع فرمایا اور آپ کو سارے اگلے پچھلے حضرات کا علم دیا۔

سیدنا فاروق اعظم کا بیان

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَاماً فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ

وَاهْلَ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مِنْ حَفْظِهِ وَنَسِيهِ مِنْ نَسِيهِ (رواه البخاري، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۰)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ہماری مجلس میں قیام فرمایا کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنے اپنی منزل میں داخل ہونے تک کی خبر دی اور کہا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا اُس کو۔

کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع
مولیٰ کو قول و تکل و ہر خشک و ترکی ہے

شرح

جو کہنے والے تھے آج کہنا چاہتے تھے جب وہ کہنے والے ہی نہ تھے تب سے آپ کو ان کے حالات کی خبر ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے مالک و مولیٰ کو تکل و اس کے قول کی بلکہ ہر خشک و ترکی خبر ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا وَإِنَّا نَظَرْنَا إِلَيْهَا وَإِنَّ مَا هُوَ لَأَنْ فِيهَا إِلَّا يَوْمُ الْقِيمَةِ كَانَمَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ كَفِي
هذه۔ (رواه الطبراني، مواهب الدنيا، زرقاني)

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھائی تو میں تمام دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنی ہتھیلی کو۔

وَلَا حَيَّةٌ فِيٰ ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِيٰ كِتْبٍ مُّبِينٍ (پارہ ۷، سورہ الانعام، آیت ۵۹)
اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تراور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔

عقیدہ علمائے امت و اولیائے ملت

امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں

العارف من جعل الله تعالى في قلبه لوحًا منقوشاً باسرار الموجودات فلا تتحرك حرفة ظاهرة

ولا باطنة في الملك والملكون إلا ويشهد لها علماء وكشافة

عارف وہ ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے جس میں جملہ موجودات کے تمام اسرار منقوش، ملک و ملکوت میں ظاہری و باطنی کوئی حرکت نہیں ہوتی جسے وہ اپنے علم و کشف سے نہ دیکھتا ہو۔

یہی امام شعرانی قدس سرہ **الجواہر والدار** میں فرماتے ہیں

الكامل قلبه مرآة الوجود العلوى والسفلى كله على التفصيل

کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروجاتم تفصیل ہے۔

حضرت شیخ علامہ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ نے فرمایا کہ

واقری الا رواح فی ذالک روحه صلی اللہ علیہ وسلم فانها لم يحجب عنها شيئاً من العالم فھی مطلعة على عرشه

و علوه و سفله و دنياه و آخرته و ناره و جنته لأن جميع ذالک خلق لا جله صلی اللہ علیہ وسلم فتمیزه عليه السلام

خارق لهذه العوالم باسرها فعنده تمیز في اجرام السموات من اين خلقت و متى خلقت ولم

خلقت والى اين تصیر في جرم كل سماء و نعده تمیز في ملئكته كل سماء و اين خلقوها و متى

خلقوها والى اين يصيرون و تمیز اختلاف مراتبهم و منتهی درجاتهم و عنده عليه السلام تمیز في

الحب السبعين و ملئكته كل حجاب على الصفة السابقة و عنده عليه السلام تمیز في اجرام

النيرة التي في العام العلوم مثل النجوم والشمس والقمر واللوح والقلم والبرزخ والارواح التي فيه

على الوصف السابق وكذا عنده عليه الصلوة والسلام تمیز في الجنان و درجاتها و عدد سكانها و

مقاماتهم فيها وكذا ما بقى من العوالم وليس في هذه مزاحمة للعلم القديم الا ذلی الذي لانهاية

لمعلوماته وذالک لأن ما في العلم القديم ينحصر في هذه العوالم فان اسرار لربوبية و اوصاف

الالوهية التي لانهاية لها ليست من هذا العالم في شيء

یعنی اس امتیاز میں سب سے زیادہ قوی روح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس روح پاک سے عالم کی کوئی شے پر وہ میں نہیں

ہے یہ روح پاک عرش اور اس کی بلندی پستی دنیا و آخرت جنت و دوزخ سب پر مطلع ہے کیونکہ یہ سب اسی ذات مجع

کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تمیزان جملہ عالموں کی خارق ہے آپ کے پاس اجرام سماوات کی تمیز ہے

کہ کہاں سے پیدا کئے گئے کیونکہ پیدا کئے گئے کیا ہو جائیں گے؟ اور آپ کے پاس ہر ہر آسمان کے فرشتوں کی تمیز ہے

اور اس کی بھی کوہ کہاں سے اور کب سے پیدا کئے گئے اور کہاں جائیں گے اور ان کے اختلاف مراتب اور منتهاۓ درجات کی بھی تمیز ہے۔ عالم علوی کے اجرام نیرہ سیاروں سورج، چاند، لوح و قلم، بروزخ اور اس کی ارواح کا بھی ہر طرح انتیاز ہے اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوقات خشکی اور تری جملہ موجودات کا بھی ہر حال معلوم ہے۔ اسی طرح تمام جنین اور ان کے رہنے والوں کی گنتی اور مقامات سب معلوم ہیں، ایسے ہی باقی تمام جہانوں کا علم ہے اور اس علم میں ذات باری تعالیٰ کے علم قدیم کی معلومات اس عالم میں مختصر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اسرارِ بوبیت اوصافِ الوہیت جو غیر متناہی ہیں اس عالم ہی سے نہیں۔

دیکھئے صاف کتاب **ابریز** میں کیسی صاف تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی روح اقدس سے عالم کی کوئی چیز عرشی ہو یا فرشی دنیا کی ہو یا آخرت کی پرده اور جاپ میں نہیں حضور سب کے عالم ہیں اور ذرہ حضور پر ظاہر و روشن ہے۔ بایس ہمہ حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں کیونکہ علم الہی غیر متناہی ہے اور حضور کا علم خواہ متناہی و سیبو ہو متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت ہی کیا۔

یہی صاحب ابریز اپنی کتاب **ابریز شریف** میں لکھتے ہیں

ما السموات السبع والارضون السبع في نظر العبد المؤمن الا الحلقۃ تلقاۃ في حالة من الارض

ساتوں آسمان ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہے جیسے کئی میدان لق و دق میں ایک چھلاؤڑا ہو۔

فائدة

مخالفین جو حضور اکرم ﷺ کی وسعت علم سے واقف نہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی عظمت کیا جائیں جب حضور کے علم کی وسعت سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے کیا زیادہ ہو گا بس خدا اور رسول کو برابر کر دیا یہ ان کی سخت نادانی ہے کہ وہ علم الہی کو عالم میں مختصر خیال کریں یا علم متناہی کے برادر ٹھہرا کیں۔ مسلمان ان دونوں میں فرق کرتے ہیں حضور اکرم ﷺ کے علم کو اس کی وسعت کے ساتھ تسلیم کرتے اور عطائے الہی کا اقرار کرتے ہیں اور علم الہی کو اس کی بے مثال عظمت کے ساتھ مخصوص بحق مانتے ہیں در حقیقت علم نبی کریم ﷺ کا انکار کرنے والے جواہل سنت پر مساوات ثابت کرنے کا الزام لگاتے ہیں علم الہی کو متناہی سمجھنے میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی تنقیص کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر یہاں سمجھ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے واقف ہوتے تو حضور اکرم ﷺ کے وسعت علم کا کبھی بھی انکار نہ کرتے حضور اکرم ﷺ کے کمالات کا انکار وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت سے بے خبر ہے۔

ان پر کتاب اتری بیاناً لکل شی
تفصیل جس میں ما عبر و ما غیر کی ہے

حل لغات

بیاناً الخ آئیہ

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (پارہ ۱۳، سورہ النحل، آیت ۸۹)

اہم نے تم پر قرآن اتنا را کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔
ما عبر، جو گزر گیا اور ما غیر جو باقی رہا۔ اشارہ، حدیث
ما فیہ بناء من قبلتم و خبر من بعدكم.

قرآن میں تم سے اگلوں اور تم سے پچھلوں سب کے احوال کی خبر ہے۔ (حاشیہ حدائق)

شرح

حضور اکرم ﷺ پر وہ کتاب نازل ہوئی جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے اور گذشتہ اور آنے والے تمام حالات کی اس میں تفصیل ہے۔ اس موضوع پر فقیر کی دو تصنیفیں ہیں

(۱) نور الایمان فی ان جمیع العلوم فی القرآن
(۲) جامع البیان

شعر مذکورہ میں آیت ”نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ“ کی طرف اشارہ ہے
اسی لئے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

جميع العلم فی القرآن لكن
تقاصر عن افهام الرجال

یعنی تمام علوم تو قرآن مجید میں ہیں لیکن لوگوں کی سمجھ سیوراء الوراء ہیں جتنا کسی کو عطا یہ نبوی یا علی صاحبہا احتیہ ہوتا ہے
اتقی و سمعت بلند ہوتی ہے یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا

لو ضاع لی عقال بعیری لوجده فی القرآن. (الثقان، صاوی)

اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن کی گہرائیوں سے مطلع ہو کر حاصل کرلوں گا۔
یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو نبی کریم ﷺ سے حافظہ نقیب ہوا۔

فائدة

آیت مذکورہ بالا کے تحت امام رازی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا

ان هذا القرآن مشتمل على تفصیل جميع العلوم الشریفة عقلیها ونقلیها اشتمالاً یمتنع حصوله فی

سائر الكتب فكان ذالك معجزا

تحقیق یہ قرآن علوم عقلیہ و نقلیہ کی تفصیلات پر مشتمل ہے اور ایسی تفصیل کسی دوسری آسمانی کتاب میں ممکن محال ہے لہذا یہ نبی اُمی فداہ ابی و امی کا مجھرہ ہے۔

اگے رہی عطا وہ بقدر طلب تو کیا
عادت یہاں امید سے بھی بیشتر کی ہے

شرح

انسان کی طلب تو اس کے اپنے اندازہ پر ہے لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کی عطا اسکے طلب کے سوا وقدم اگے ہے کیونکہ یہاں عادت کچھا یسی ہے کہ انسان کی امید سے بھی بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔

بن مانگے اور امید سے بڑھ کر دادو دھش

اپ کسی شخص سے ایک چیز خریدتے قیمت چکار دینے کے بعد وہ اسی کویا کسی دوسرے کو عطا فرماتے چنانچہ اپ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے ایک اونٹ خریدا پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ عنایت فرمایا۔ اسی طرح ایک روز اپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شتر بچہ خریدا پھر حضرت عبد اللہ بن عمر کو عطا فرمایا۔ (بخاری)

بے مانگے دینے کی نعمت میں عرق ہیں
مانگے سے جو ملے کے فہم اس قدر کی ہے

شرح

مانگے بغیر مانگنے والے ہمارے کریم ﷺ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر ان نعمتوں کا کیا کہنا جو مانگنے سے ملیں اس کا معلوم کرنا بس سے باہر ہے۔

جملہ نعمتیں حضور اکرم ﷺ کے صدقے عطا ہو رہی ہیں اس عطا کی تو کوئی حد نہیں اور جو مانگے سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں ان کی بھی مثال نہیں۔

سرق ایک صحابی تھا ان سے اس نام کی وجہ تسلیہ دریافت کی گئی تو کہنے لگے کہ ایک بدوسی دو اونٹ لے کر آیا میں

نے خرید لئے پھر میں (قیمت لانے کے بہانے سے) اپنے گھر میں داخل ہوا اور عقب خانہ سے نکل گیا اور ان اونٹوں کو بیچ کراپی حاجت پوری کی۔ میں نے خیال کیا کہ بدھی چلا گیا ہو گا میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے۔ وہ مجھے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا اور واقعہ عرض کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اونٹوں کو بیچ کراپی حاجت پوری کی ہے آپ نے فرمایا کہ بدھی کو قیمت ادا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تو سرق ہے پھر بدھی سے فرمایا کہ تم اس کو بیچ کراپی قمحت و صول کر لو چنانچہ لوگ اس سے میری قیمت پوچھنے لگے وہ ان سے کہتا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم خرید کر اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر بدھی نے کہا کہ میں تمہاری نسبت ثواب کا زیادہ مستحق و خواہاں ہوں اور مجھ سے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ (مترک للحاکم قصہ سرق)

احباب اس سے بڑھ کے تو شاید نہ پائیں عرض
ناکرده عرض یہ طرزِ دگر کی ہے

شرح

احباب اس سے بڑھ کر شاید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں کہ یہاں عرض نہ بھی کرو تب بھی عرض بغیر بہت کچھ ہوتا ہے غور کیجئے تو یہ عجیب طرز ہے کہ عرض کئے بغیر آرزو سے بڑھ کر نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔

ندان کا نعت خواں ہوں نہ پایا ب ہو گی آب
ندی گلے گلے مرے آب گھر کی ہے

حل لغات

پایا ب، دریا کا وہ حصہ جو کم گہرا ہو اور آدمی اپنے پیروں پار آت سکے۔ آب، صفائی، چمک، رونق، روپ، جلا، تازگی، دھار، تیزی، لو ہے کی سختی، کاث، تلوار کا جو ہر، بجھاؤ، نیر پتلا، رفیق شیر، رس، شراب، پسینہ، عرق، آنسو، پانی، مینہ۔

شرح

ندان مبارک کا وصف بیان کرنے والا ہوں اب صرف کنارے کنارے نہ کھا جائے گا بلکہ اب گھر کی ندی کے بھر پور پانی جو گلے تک پہنچتا ہے میں جگہ ملے گی یعنی بہت بڑا انعام و اکرام نصیب ہو گا۔

ندان مبارک

احادیث مبارکہ میں ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ اذَا صَحَّكَ يَتَلَالَافِي الْجَدَالِمَ مُثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

جب نبی پاک ﷺ ہستے تو آپ کے دندان مبارک کی شعاعیں دیواروں پر پڑتی تھیں آپ کے دانتوں مبارک جیسا میں نے نہ پہلی کوئی دیکھا ہے آپ کے بعد

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ افْلَجَ الشَّيْطَنِ اذَا تَكَلَّمَ اِيْ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ ثَنَاءِيَّاهُ . (شَمَائِلُ تَرْمِذِي)

نبی پاک ﷺ کے دانتوں کے درمیان میں کشادی والے تھے یعنی دانتوں کے درمیان جھریاں تھیں جب آپ ﷺ فرنگو فرماتے تو دندان مبارک کے درمیان سے نور کی مانند کوئی چمدار شلتگتی تھی۔

فائدة

مواہب الدنیہ میں ہے کہ کاف کالنور میں زائد ہے آپ کے دندان کے درمیان سے نور لکھتا تھا یہ آپ کا مججزہ

ہے۔

دست حرم میں رہنے والے صیاد اگر تجھے
مٹی عزیز بلبل بے بال و پر کی ہے

شرح

اے صیاد مجھے دشت حرم میں رہنے کی اجازت دے دے تجھے اگر بے بال و پر بلبل کی مٹی عزیز ہے تو میرا مدفن یہاں ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر لینا لیکن میری آرزو تو پوری ہو جائے گی کہ دشت حرم میں مدفن نصیب ہو گا۔

یا رب رضا نہ احمد پاریثہ ہو کے جائے
یہ بارگاہ تیرے حبیب ابر کی ہے

حل لغات

پاریثہ، پرانا قدیم۔ ابر، نصیحتیں، ورائے مشدودہ سب سے زیادہ محسن، یہاں راء کو مخفف پڑھا جائے۔

شرح

اے پروار گار عالم احمد رضا (محمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) پرانا ہو کر نہ جائے کیونکہ یہ بارگاہ تیرے اس حبیب

کریم ﷺ کی ہے جو تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محسن ہے اس میں اشارہ ہے اس مصروف کی طرف

من ہمارا الحمد پارینہ کہ بودم هستم

توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خونے بد

تبدیل کر جو خصلت بد پیشتر کی ہے

شرح

اے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرم اک آئندہ کوئی بُری عادت پیدا نہ ہو جائے اگر اس سے قبل کوئی بُری خصلت ہے تو اسے بھی نیک عادت سے تبدیل فرمادے۔

آپکچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا
 مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے

شرح

اے رضا (حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) آئیے کوئی عشق کے بول سنا دواں لئے کمیری طبع سوز و جگر کے لذت کی مشتاق ہے۔

علمی رنگ ختم شد

نعت ۷۰

حاضری درگاہ ابدی پناہ وصل دوم رنگ عشقی

حل لغات

درگاہ (فارسی) چوکھٹ، شاہی دربار۔ ابدی (عربی) وہ زمانہ جس کی انتہائی ہو، یہ نسبت کی ہے۔

شرح

اس شاہی دربار کی حاضری کا بیان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مخلوق کی پناہ گاہ یعنی رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ کی حاضری کا بیان جبکہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ ۲۲۳ھ احمدینہ پاک حاضر ہوئے۔

ربط

اس سے قبل حاضری بارگاہ کو علمی رنگ میں بیان فرمایا اس نعت میں عشقی رنگ ہو گا۔

حاضری کا منظر

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ جب حجاز اقدس حاضر ہوئے تو آپ کی علمی شان کا مظاہرہ فقیر نے اسی نعت میں عرض کیا۔ اسی نعت میں عشقی رنگ کی مناسبت سے آپ کی عاشقانہ حاضری کے متعلق تفصیل مفتوح اعلیٰ حضرت کا مطالعہ فرمائیں۔

بھینی سہانی صح میں ٹھنڈک جگر کی ہے
کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے

حل لغات

بھینی، ہلکی اور پر لطف خوبی۔ سہانی، دل پسند، من بھاتی، پیاری۔ کلیاں، کلی کی جمع، بن کھلا پھول، غنچہ۔ کھلیں از کھلنا (بکسر کاف ہندی) کلی کا پھولنا، بنسنا، خوش ہونا۔

شرح

من بھاتی ہوا پر لطف خوبی کی یہ ہوا کدھر سے تشریف لائی ہے کہ جس سے جگر کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے اور دلوں کے غنچے پھوٹ پڑے ہیں اور جی باغ باغ ہو گیا ہے۔

یہ عاشق کی اس کیفیت کا بیان ہے جب وہ اپنے محبوب کے دیار کی جانب عزم رکھتا ہے اور عزم پورا ہوا کہ دیارِ یار

کی طرف جانے کا بلاوا آگیا اور وہ تیاری میں لگا ہوا ہو۔ اس تیاری میں اس کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ محدث بریلوی نے سوئے مدینہ پاک کی اپنی تیاری کا نقشہ کھینچا ہے۔

کھبٹی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے
چھبٹی ہوئی جگر میں صدا کس سحر کی ہے

حل لغات

کھبی ہوئی از کھننا (بالمضم) بمعنی چھننا، بیٹھنا، گڑنا، بسن۔ چھبٹی ہوئی از چھننا، چھدنا، گڑنا۔ صدا، گندکی آواز، آہٹ، فقیر کی آواز یہاں مطلق آواز مراد ہے۔ کجر (اردو) پھر کا باجہ، گھنٹے کی آواز، الارم، صبح کی نوبت۔

شرح

نگاہوں میں بس جانے والی ادا کس سحر کی ہے جگر میں اثر انداز آواز کس گھریوال کی آواز سے ہے۔ عاشق مدینہ جب مدینہ پاک کی حاضری کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس کی روائی کا منظر دیدنی ہوتا ہے امام احمد رضا قدس سرہ نے اس منظر کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔

ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری
کشت امل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے

حل لغات

ڈالیں، ڈالی کی جمع، ٹہنی۔ ہری ہری، سربز تازہ (تا کید بمعنی ہے) بالی، خوشے۔ کشت (فارسی، بکسر الکاف) کھبٹی۔ امل (بفتح سین) امید و آرزو، پری، خوبصورت و خوشنما۔

شرح

آج ٹہنیاں سربز و شاداب ہیں اور خوشے دانوں سے بھر پور ہیں اور ہماری آرزو و تمنا کی کھبٹی بھی خوب خوشنما ہے واللہ اعلم۔

یہ بارش بارکت کدھر سے ہے روائی کی شب و سحر ایک زرالی شان والی ہوتی ہے اس کا ہر منظر بھانے والا ہوتا ہے اسی کا امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی روائی کے وقت اظہار فرمایا ہے۔

ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے
سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے

حل لغات

لپٹ از لپٹنا، چمٹنا۔ سونپا از سونپنا، پر دکرنا۔ عظمت، بڑائی، بندگی، شان۔

شرح

جب ہم درگاہ جبیب ﷺ میں حاضر ہونے کا پروگرام بنائیں تو حرم مکہ قدموں کو چھٹ کر کہے کہ تمہیں خدا کے پر دکیا تم بڑی شان والے ہو کاں لئے کتم عظیم الشان سفر کا عزم رکھتے ہو۔
اس شعر میں اپنی خوش قسمتی کا بیان فرماتے ہیں ایسے ہی ہر زائر مدینہ کو سمجھئے کہ جب زائر مدینہ احرام عمرہ چھوڑ کر عازم مدینہ ہوتا ہے تو گویا اب اس پر کعبہ معظمہ رشک کنایا ہو کر زائرین مدینہ کو کہتا ہے
سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے

کعبہ معظمہ مشتاق مدینہ

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے اس شعر میں احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کعبہ معظمہ کو بھی مدینہ طیبہ کی حاضری کا اشتیاق ہے یہاں تک کہ آخری لمحات میں میدانِ حشر کی حاضری سے پہلے یہی تمنا کریگا کہ اسے مزار رسول ﷺ کی زیارت نصیب ہو چنا چودہ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے مزار رسول ﷺ کی زیارت سے مشرف ہو گا بعد ازاں محسن میں تشریف لے جائے گا۔

کعبہ بارگاہ رسول ﷺ میں

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کعبہ کو دہن کی طرح ملائکہ سنگار کر میدانِ حشر میں یجاں گے۔ راستے میں مجھ سے ملاقات ہو گی کعبہ بزرگ فتح عرض کریگا السلام علیکم یا محمد ﷺ میں کہونگا علیکم السلام یا بیت اللہ اے کعبہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تو اس کے ساتھ کیا کریگا۔ عرض کریگا یا رسول ﷺ آپ کی امت میں جو بھی میری زیارت کے لئے آیا میں اس کا شفع ہونگا آپ ان کے متعلق اسلی فرمائیے اور جو میرے ہاں نہ آسکا اس کے آپ ہی شفع ہوں گے۔ (تفسیر عزیزی البقرہ صفحہ ۳۶۲)

کعبہ مزار رسول ﷺ پر

حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب شرف المصطفیٰ میں ہے کہ کعبہ خدا تعالیٰ سے مزار رسول کی زیارت کی آرزو کریگا اور اجازت چاہے گا کہ وہ مزار مبارک پر حاضر ہو۔ اجازت ملنے پر حضور اکرم ﷺ کی خدمت حاضر ہو کر عرض کریگا یا نبی ﷺ آپ ان امتوں کی فکر نہ کریں جنہوں نے میرا طواف کیا اور جو گھر سے نکالیکن میرے پاس نہ پہنچ سکایا جس نے میری ہاں حاضری کی تمنا کی لیکن کسی سبب سے نہ پہنچ سکا ان سب کی شفاعت کروں گا۔

فائده کثیر المนาفع

ان حدیثوں میں کعبہ کی تمنا کا کیا کہنا لیکن حضور اکرم ﷺ کی محبت یہ امت بھی قابل غور ہے ہاں کعبہ معظمہ کی علیٰ وسعت ذہن میں ڈالنے کے بے شمار حاجج کو کس طرح جانتا ہے کہ کل قیامت کو ظاہر ہو گا کہ کس کس نے حج پڑھا اور جونہ پڑھ سکا لیکن آرزو میں مر گیا کعبہ معظمہ اس کو بھی جانتا ہے خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانہ کا ہو یہ تو کعبہ معظمہ کا علم ہے کعبہ کا کعبہ حضرت محمد عربی ﷺ کے علم کا کیا علم ہو گا افسوس ہے اس بدجنت برادری کا کا یے محظوظ خدا ﷺ پر علمی کی تہمت لگاتے ہیں۔

هم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ
هم پر شار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے

حل لغات

گرد (بکسر الکاف عجمی) حلقة گھیرا، چاروں طرف۔ شار (بکسر نون) کوئی چیز صدقے کے طور پر کسی کے سر پر سے پھینرا، نچاہو رکرنا، قربان، صدقے، ارادہ، خواہش، قصد۔

شرح

کل ہم کعبہ معظمہ کے چاروں طرف گھومتے پھرتے (طواف) کرتے تھے لیکن آج وہ ہم پر صدقے ہو رہا ہے اس لئے کہ ہمارا قصد کسی اعلیٰ بارگاہ کا ہے اور وہ بارگاہ خود کعبہ کا بھی کعبہ ہے یعنی بارگاہ حبیب خدا ﷺ۔

طواف کعبہ گرداؤ لیا

فقیر اسی شرح کے حصہ اول و دوم میں تفصیل سے لکھ آیا ہے اور فقیر کی اس موضوع پر ایک مستقل تصنیف ہے ”القول الجلی فی ان الكعبۃ تذهب الى زیارة الولی“ یعنی شرح شریف میں بدلائل ثابت ہے کہ کعبہ معظمہ

نے مقبولان بارگاہ عزت گدایاں سرکار رسالت کے گرد طواف کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مسلمانوں کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبہ معظمه کی حرمت سے زیادہ ہے

عن ابن عمر انہ نظر يوماً الى الكعبة فقال ما اعظم حرمتك وما اعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمته

عند الله منك اخرجه الترمذی وحسنه جلد ۲ صفحہ ۲۲

ورواه ابن ماجہ مرفوعاً عن ابن عمر ولفظه قال رأیت رسول الله ﷺ يطوف بالکعبۃ ويقول
اطیک واطیب ریحک واعظم حرمتك والذی نفس محمد بیدہ الحرمۃ المؤمن اعظم عند الله

حرمة منك الخ (ابن ماجہ صفحہ ۱۲۹۰ صحیح المطابع)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کعبہ معظمه کو دیکھ کر فرمایا اے کعبہ تو بڑی عزت و حرمت والا ہے لیکن مومن کی عزت و حرمت تجھ سے زائد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کعبہ کو فرمایا کہ اے کعبہ تیری بھی شان ہے لیکن مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔

فائدة

بے شمار اولیاء کرام کی طرف کعبہ معظمه کو طواف کرتے دیکھا گیا مجملہ ان کے ایک واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمہما اللہ بہت مشہور ہے۔

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے کعبہ معظمه کا جانا

(۱) رسالہ صوفی لا ہور ما جولا ۱۹۱۳ء (۲) تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۵۲

(۳) دیوبندی رسالہ فتنہ روزہ چنان ۱۳/۲۶ (۴) انبیاء الرؤا صفحہ ۱۱

میں ہے کہ جبکہ آپ صبح کو جاری تھیں قریب مکہ معظمه کے پہنچنے پر کیا دیکھتی ہیں کہ کعبہ آپ کے استقبال کو آرہا ہے آپ مخاطب ہو کر یوں گویا ہوئیں میں کعبہ کو لے کر کیا کروں گی مجھ کو رب الْبیت چاہیے میں کعبہ کے مشاہدہ سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتی بلکہ جمال محبوب سے البتہ مسرور ہوں گی۔

روایت ہے کہ بعد ترک سلطنت حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم (شاہ بخش) چودہ سال کے عرصہ میں قدم پر دو رکعت نماز فل پڑھتے ہوئے داخل مکہ معظمه ہوئے وہاں کعبہ کونہ پایا تو خدا ہوا کہ شاید میری آنکھوں میں خلل واقع ہو گیا ہے آپ پر فوراً الہام واقع ہوا کہ تمہاری نگاہ میں نقش نہیں بلکہ کعبہ میری مجہ کے استقبال کو گیا ہوا ہے جو کہ یہاں آرہی

ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو اس واقفیت پر حیرت ہوئی اور حضرت رابعہ بصری کے شرف و نیاز سے شرف ہونے چلے اشنا عراہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ عاشق کے خمار مخورد نیا اور عقبی سے آزاد ہستی خدا میں کھوئی آرہی ہے اور کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے حضرت ابراہیم نے کہا اے رب تم نے عالم میں یہ کیا شور مچا کر کا ہے۔ آپ نے جواب میں یہ کہا کہ تم نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ ہر قدم پر نماز ادا کرتے ہوئے آئے ہوتم نے اپنی منزوں کو نماز کے زور پر طے کیا اور میں عجز و نیاز کے ساتھ بغرض لقاء محبوب یہاں پہنچی ہو۔

از الله وهم

کعبہ رابعہ کے استقبال کو آنابظاہر خلاف عقل تو ضرور معلوم ہوتا ہے مگر جن نفوس میں مذہبی احسان اور قدرتِ الہی کے اطوار و دیعۃ کئے گئے ہیں ان کے تجرب کی کوئی بات نہیں اس لئے وہ سب اسے خوب سمجھتے ہیں کہ انسان کی محدود عقل خدا کے ہر ایک راز کو نہیں سمجھ سکتی جن لوگوں نے اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو رضاۓ الہی میں گم کر دیا ہے اپنی ہستی غیر فانی زیست کے سپرد کر دی اور قوتِ ارادی محبتِ الہی میں گزار دی ہوان میں ایسی غیر معمولی آسمانی کشش ظاہر ہونے لگتی ہے کہ تمام کائنات ان کے قبضہ و قدرت میں ہو جاتی ہے اور ان کا ہر ایک فعل فعلِ الہی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے

وَمَا تَشَاءُ وَنَّ إِلَّا أُنْيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (پارہ ۳۰، سورہ التکویر، آیت ۲۹)

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ جو سارے جہان کا رب۔

کالک جین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے
مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا مجر کی ہے

حل لغات

کالک، سیاہی، رسولی، عیوب یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ جین، پیشانی، ماتھا۔ جر، جر سے جرا سود مراد ہے۔

شرح

جراسود کہتا ہے اے حاجیو! میرے ماتھے سے سیاہی تب جائیگی جب در رسول ﷺ پر سجدہ ریز ہونگا فالہذا مجھے بھی مدینہ پاک اپنے ساتھ لے چلو۔ جراسود کی یہی آرزو ہے کہ وہ بھی در رسول ﷺ پر حاضری دے۔

حراسود کو عشق رسول ﷺ

حراسود بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور شرعاً واضح ہے کہ مخلوق کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی پاک ﷺ کا امتی ہے۔

حدیث شریف مشکلاۃ، مسلم میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

میں تمام حقوق کا رسول ہوں

ارسلت الی الخلق کافہ

اور یہ بھی مسلم ہے کہ حقیقی امتی ہے بھی وہی جسے اپنے رسول اکرم ﷺ سے عشق اور محبت ہو وہ منافق ہے اور جہنم کا ایندھن اور معذلہ منکر تھے کہ ڈھیلے پھر بے جان شے ہے اس میں شعور ہے نہ کوئی فہم۔ اہل سنت نے پر زور دلائل سے ثابت کیا کہ جمادات، نباتات، اجوار و اشجار وغیرہ میں ان کی شان کے لاکن جان بھی ہے اور شعور و فہم بھی۔ علاوہ ازیں جہرا سود تو ہے بھی جنت سے تشریف لا یا ہوا۔

آرزوئے حجر اسود

کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کعبہ کا دل ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

انی لاعرف حجراً بمکة کان یسلم علی۔ (مسلم)

میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے۔

شیم الریاض جلد ۳ صفحہ ۲۷ میں ہے کہ یہ پتھر حجر اسود تھا یہی راجح قول ہے۔ دیکھنے نقیر کے رسالہ "آخری المسجد

در رسالہ" حجر اسود غلام احمد ہے بی بی حلیمه رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم ﷺ کو رضاوت کے لئے گھر لے

جا رہی تھی ارادہ ہوا کہ طواف کر کے گھر جاؤں میں آپ کو گود میں لئے کعبہ میں آئی۔ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو حجر اسود اپنی

جگہ سے ہٹ کر حضور اکرم ﷺ تک پہنچ گیا اور آپ کے چہرہ اقدس کو چوما۔ (تفہیم مظہری جلد ۶ صفحہ ۲۸)

ڈوبا ہوا ہے شوق میں زم زم اور آنکھ سے

جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے

حل لغات

ڈوبا ہوا از ڈوبنا، غرق ہونا۔ جھالے، جھال کی جمع، تیزی، جلن، نا نکا، اہر، تھوڑی تھی، بارش یہاں مطلق قطرات

مراد ہیں۔

شرح

زم زم شریف شوق میں غرق ہے اور اس آنکھ سے دیکھو کیسے تیز قطرے بادل کی طرح برس رہے ہیں واللہ اعلم۔

اسے کدھر کی حسرت اور تمنا ہے یعنی وہ بھی مدینہ طیبہ کی آرزو تمنا میں آنسو بھارتا ہے چاہتا ہے کہ وہ بھی حاجیوں کے ساتھ

ہی گند خضرا کی حاضری کے لئے چل پڑے کیونکہ آب زم زم نے حضور اکرم ﷺ سے بہت فیض پایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب اطہر کو شق کر کے آب زم زم سے دھونے سے اس میں مزید برکات و فیضات کا اضافہ مطلوب تھا نہ کہ (معاذ اللہ) آپ کے قلب اقدس میں کوئی الاش تھی کہ اسے زم زم سے صاف کیا گیا وہ اسی لئے کہ آب زم زم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکتیں تھیں تو اب حضور اکرم ﷺ سے منسوب ہونے پر مزید برکات نصیب ہوں مزید تفصیل دیکھئے فقیر کی تصنیف "معراج المصطفیٰ"

برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں شار
امیر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے

حل لغات

گوہر، موتی، قیمتی پتھر۔ شار، قربان۔ امر، بادل، گھٹا۔ میزاب، پرناہ۔ زر، سونا۔ میزاب زر سے مراد کعبہ معظمہ کی دیوار شمالی پر حطیم کی طرف جو پرناہ لگا ہوا ہے اسے میزاب زر اور میرا ب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔

شرح

میزاب رحمت (پرناہ کعبہ) کے عشق رسول ﷺ کا بیان ہے کہ پرناہ بھی آرزو رکھتا ہے کہ مدینہ پاک کو جانے والوں کے لئے ہدیہ تھخہ پیش کرے کہ یہ اس کے محبوب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اسے بھی آرزو ہے کہ کاش وہ بھی مدینہ کا زائر ہوتا۔

لطیفہ

کعبہ معظمہ سے دور بندگاں خدا جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے میرے گھر آجائو ایک کے بجائے ایک لا کھدو نگا جب بندگاں خدا کعبہ معظمہ میں حاضر ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے آرزو و تمنا کرتا کرتے ہیں تو گویا کعبہ کہتا ہے کہ میں بھی تاجدارِ مدینہ کا بھکاری ہوں دیکھ لو کہ پرناہ بصورت سائل کے ہاتھ تاجدارِ مدینہ ﷺ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوئے ہے۔

فائدة

پرناہ مدینہ طیبہ کے عین سامنے ہے جسے جب سے بنایا گیا وہ اسی ہیئت میں تا حال موجود ہے نجد یوں کی توڑ پھوڑ بھی اس تاجدارِ مدینہ ﷺ کی جانب بھکاری والی صورت و ہیئت کو تبدیل نہیں کر سکی۔

اغوش شوق کھولے ہے جن کے لئے حطیم
وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے

حل لغات

اغوش، گود، بغل، کوٹی۔ حطیم، زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائے کعبہ معظمه کی تجدید کی تھی کم خرچ کے باعث چند گز ز میں شمال کی طرف چھوڑ کر دیواریں اٹھادیں وہ ز میں اصل میں کعبہ معظمه کی ہے اس کے گردی قوی شکل پر کمر تک ایک بلند دیوار کھینچ دی گئی ہے اور دونوں طرف سے جانے کی راہ رکھی ہے اس لکڑے کو حطیم کہتے ہیں جو بالکل اغوش کی شکل پر ہے۔ دھن (اردو، ہونڈ) دھیان، شوق، لٹ۔

شرح

حطیم نے شوق سے بغلیں کھول رکھی ہیں اے حاجب و دیکھتے نہیں ہو کہ اسے یہ شوق کس کی جانب ہے یہ بھی اس آرزو میں ہے کہ کاش اسے بھی مدینہ پاک جانا نصیب ہوتا۔

ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ
او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے

حل لغات

ہاں، ایجاد و قبول کا کلمہ، اصرار، یہاں تاکید کے ساتھ ہے۔ او، حرفِ ندا، ارے، ابے، اپنے سے کم رتبے والے کو بلا نے کی آواز۔

شرح

اب جبکہ عاشق مدینہ کے معظمه سے فراگت پا کر مدینہ پاک کو جانے والا ہے تو اسے امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ مدینہ کی حاضری کا ادب سمجھاتے ہیں کہ ہاں تو اے عاشق مدینہ تو مدینہ پاک جانے کو تیار ہے لیکن غفلت سے نہیں جانا یہاں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے ارے بندہ خدا جہاں تو جا رہا ہے یہاں پاؤں پر چلنے کا راستہ نہیں بلکہ یہاں تو آنکھیں بچا کر سر کے بل چلنے ضروری ہے اسی کو دوسرا مقام پر یوں فرمایا
ارے سر کا موقع ہے اوجانے والے
حرم کی ز میں اور قدم رکھ کے چلنا

داروں قدم قدم پ کے ہر دم ہے جان نو
یہ راہ جاں فزا مرے مولائے در کی ہے

حل لغات

داروں از وارنا، قربان کرنا، نچھاور کرنا۔ نو، جدید، نئی۔

شرح

راہ مدد پاک کے ایک ایک قدم پر ہر آن نئی جان قربان کروں اس لئے کہ یہ راہ جان فزا میرے آقا مولیٰ ﷺ کے درِ اقدس کو جاتی ہے۔

گھریاں گنی ہیں برسوں کے یہ سبکھڑی پھری
مرمر کے پھر یہ سل مرے سینے سے سرکی ہے

حل لغات

گھریاں، گھری کی جمع ہے، پھر کا اٹھواں حصہ، وقت یہاں یہی مراد ہے۔ برسوں، سالہاں سال۔ گنی، از گننا شمار کرنا۔ سبکھڑی، بالضم سین و سکون ہائے موحدہ، ہندی زبان میں نیک و سعیداب معنی ہوا ساعت سعید۔ پھری از پھرنا، چکر کھانا، واپس ہونا۔ سل، ایک مہلک مرض جس میں پھیپھڑوں سے زخم کے باعث خون آ کر خون سوکھ سوکھ کر آدمی مرجاتا ہے۔

شرح

عرصہ دراز تک سالہاں سال گنتے گنتے یہ ساعت سعید نصیب ہوئی اور بھروسہ فراق کی بیماری جو بنزلہ (سل مرض) کے ہے سینے کو جلا جلا کر ماری ہی دیا لیکن اب اس سے نجات کے بجائے شکر ہے کوہ سر میں آ گیا یعنی عشق و محبت نے رنگ دکھایا کہ یہ ساعت سعید نصیب ہو گئی۔

اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک
حرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے

حل لغات

اللہ اکبر (عربی کلمہ) مشہور ہے لیکن ادو میں نفرہ تکبیر اور تعجب کے وقت بھی بولتے ہیں یہاں یہی مراد ہے۔

حضرت، تمنا، آرزو۔ وضع (عربی) مصدر بمعنی رکھنا۔

شرح

سبحان اللہ، اللہ اکبر ہمارے قدم اس خاک پاک پر ہیں جہاں ملائکہ کی تمنا و آرزو ہے کہ کاش وہ یہاں اپنے سر رکھیں۔

معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائر
کرسی سے اوپنجی کرسی اسی پاک گھر کی ہے

حل لغات

سماں (اردو) زمانہ، وقت، موقع، محل، لطف، اچھی، فصل، جوبن، زائر و زائر کی جمع مراد مدینہ پاک کے زائرین۔
کرسی، چوکی، آٹھوں آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَسَعَ أَزْرُكَ مِنْ سَمَوَاتِ الْأَرْضِ“ دوسری کرسی کا معنی تخت، مند، گدی۔

شرح

اے زائرین مدینہ سوچو کہاں تک پہنچے ہو تمہیں تو معراج جیسا موقع نصیب ہوا ہے۔ اس مقدس گھر کی مندوتو
کرسی وغیرہ سے بھی بلند سے بلند تر ہے۔

عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم بھکے
اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے

حل لغات

عشاق، عاشق کی جمع مراد عاشقانِ رسول ﷺ۔ روضہ، باغ، یہاں گنبد خضری مراد ہے۔ حرم سے کعبہ معظمہ مراد ہے۔

شرح

گنبد خضراء کے عشاق کعبہ شریف کی طرف سجدہ میں بھکے لیکن کی خواہش کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی عاشقون
کی آرزو کیا ہے۔

اس شعر کے دو معنی ہیں ایک ظاہری یعنی عاشقانِ روضہ کا اپنا تو یہی جی چاہتا تھا کہ روضہ اطہر کی طرف سجدہ میں
بھکے مگر دل کی خواہش سے خدا تعالیٰ کو خبر ہے تو اس وقت ان کی وہ حالت ہے جو سولہ ہیئینے بیت المقدس کی طرف حکم

سجدہ ہونے میں مسلمانوں کی حالت تھی کہ یہ تمیل حکم بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے اور دل میں خواہش یہ ہی تھی کہ مکہ معظمہ کو قبلہ کر دیا جائے

فَلَنُولِّنَكَ قِبْلَةً تُرْضِهَا (پارہ ۲، سورہ البقرہ، آیت ۱۳۳)

تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے
اس تقدیر پر نیت بمعنی رغبت و خواہش ہے دوسری معنی دلیق کے عاشقانِ روضہ کا سجدہ اگرچہ صورۃ سوئے حرم ہے
مگر نیت کا حال خدا جانتا ہے کہ وہ کسی وقت اس کے محبوب ﷺ سے جدا نہ ہوئے وہ خوب جانتے ہیں کہ

کعبہ بھی انہیں کی تجلی کا ایک مل

کعبہ بھی انہیں کے نور سے بنا انہیں کے جلوہ نے کعبہ کو کعبہ بنادیا۔

تو حقیقت کعبہ وہ جلوہ محمد یہ ہے جو اس میں تجلی فرمائے وہی روح قبلہ اور اسی کی طرف حقیقتاً سجدہ ہے اتنا یاد رہے کہ حقیقت محمد یہ ہماری شریعت میں مسجد و مسجد مسجد ہے اور اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی مسجد و مسجد ہے۔ ملا نکہ ویعقوب وابناء یعقوب علیہم السلام نے اس کو سجدہ کیا آدم و یوسف علیہما السلام قبلہ تھے۔ (حاشیہ حدائق مطبوعہ کراچی)

فائدة

حدائق بخشش مطبوعہ کے بعض مقامات پر خود امام احمد رضا قدس سرہ نے کچھ حواشی بھی لکھے تھے اس لئے پرانے مطبوعہ دیوانوں (حدائق بخشش) کے اکثر حواشی کے اختتام پر لفظ دیکھا جاتا ہے (ایسی لئے نقیر نے تبرکات حواشی کو بھی موقعہ بمقابلہ کیا ہے)

شرح از صاحب کلام رحمة الله تعالى عليه

مذکورہ حاشیہ پڑھ کر کسی صاحب نے سوال کیا کہ مصرع عثاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم بھکلے کی شرح مطلب میں تحریر ہے کہ انہی کے جلوہ نے کعبہ کو کعبہ بنادیا تو حقیقت کعبہ وہ جلوہ محمد یہ (علی صاحبہ اصلوۃ والسلام) ہے جو اس میں تجلی فرمائے وہی روح قبلہ اور اسی کی طرف حقیقت سجدہ ہے اتنا یاد رہے اخ
یہ عبارت اور حاشیہ میں ہے۔

اس پر سائل کا سوال ہے کہ ان الفاظ سے اس ناقص الایمان والعلم والعقل کی ناقص فہم میں یہ آتا ہے کہ جلوہ محمد یہ ہی کو حقیقت کعبہ کہا گیا ہے جب حقیقت کعبہ جلوہ محمد یہ بنائی گئی اور اس کی طرف حقیقت سجدہ کیا گیا اور حقیقت محمد یہ کو مسجد

ایہا کہا تو حقیقت کعبہ کا حقیقت محمد یہ لازم آتا ہے۔

اس کے جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے لکھا

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اگر آپ آفتاب اور دھوپ کو دیکھیں تو فرق حقیقت و تجلی کی ایک ناقص مثال پیش نظر ہو۔ آفتاب گویا حقیقت نہ ہے اور دھوپ اس کا جلوہ، حقیقت صفات کثیرہ رکھتی ہے اور اپنے مجال میں متفرق صفات سے تجلی کرتی ہے ان صفات کے لحاظ سے جو آثار ان کے مجالی کے ہیں وہ حقیقت حقیقت کے اور معاملات ان مجالی سے بحیثیت مجالی ہیں وہ حقیقت حقیقت سے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نسبت فرمایا

فَمِنْ أَحَبُّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبُّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضُهُمْ فَبِبغْضِي أَبْغَضُهُمْ

حقیقت کعبہ مثل حقائق جملہ اکوان حقیقت محمد یہ علی صاحبہا افضل الصلة و اتحیہ کی ایک تجلی ہے کعبہ کی حقیقت وہ جلوہ ہے مگر وہ جلوہ عین حقیقت محمد یہ نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) بلکہ اس کے غیر تنہائی اظلال سے ایک ظل جیسا کہ اس قصیدہ میں ہے
کعبہ بھی ہے انہیں کی تجلی کا ایک ظل
روشن انہیں کے عکس سے پتلی حجر کی ہے

حقیقت کریمہ نے اپنی مسجدیت ایہا سے اس ظل میں تجلی فرمائی ہے لہذا کعبہ جس کی حقیقت یہی ظل و تجلی ہے مسجد ایہا ہو اور حقیقت وہ حقیقت علیہ مسجد ایہا ہے کہ اس کی صفت کے ساتھ اس پر تجلی نے اسے مسجد ایہا کہا۔ **والسلام (فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۱۹۶، ۱۹۷)**

فائدة

امام احمد رضا قدس سرہ کے قلم پر قربان جاؤں کہ ایک بہت بڑی دقیق تحقیق اور طویل مضمون کو دریا نہ کوہہ بند کر کے ثابت فرمایا کہ کعبہ تو اس آفتاب تجلیات کا ایک ظلم ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا کعبہ ہیں۔

تبصرہ اویسی غفرانی

چونکہ یہ مسئلہ وحدۃ الوجود سے متعلق ہے جو حضرات وحدۃ الوجود سے کچھ واسطہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا کعبہ ہیں وہ اس لئے کہ مراتب ستہ میں مرتبہ حقیقتہ جامع الحقائق ہے وہی مرتبہ جمیع حقائق کا سرچشمہ ہے

اور کعبہ بھی اسی کی ایک جھلک ہے۔ اب سمجھئے حقیقتِ محمد یہ کی تحقیق

حقیقتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا السلام والتحیہ

دوسری مرتبہ یقین اول مرتبہ وحدت اور حقیقتِ محمد یہ ﷺ مرتبہ احادیث اور وادیت کے درمیان بزرخ ہے اسی لئے اس مرتبہ کو بزرخ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔

یہ مرتبہ مراتب تفریحی سے ہے اس مرتبہ کو مرتبہ حقیقی بھی کہتے ہیں یہ تجھی علمی ہے یہ تجھی نور وجود علم شہود چار کمالات کی جامع ہے۔ نور سے ظاہریت اور مظہریت وجود سے واحدیت موجودیت، علم سے علیت اور معلومیت، شہود سے شاہدیت اور مشہودیت۔ یہ مرتبہ باعتبار بطنون کے اول اور باطن ہے جو ذات باری تعالیٰ ”کنت کنزًاً مخفیًّا“^{وَكُنْتَ} کر چھپا ہوا تھا۔ وہ اس مرتبہ میں اجمالی اور کلی طور پر ثابت ہوا اس لئے اس مرتبہ کو ام الکتاب کہتے ہیں جیسے ”کشجرة فی النواة“^{كَنْجُلِي} میں درخت کا اندر ارج ہوتا ہے اس طرح اس مرتبہ میں تمام تفصیلات و جزئیات کا اندر ارج ہے۔ گنجعلی تمام درخت کی جزئیات کے لئے ام الکتاب ہے جو کچھ گنجعلی میں چھپا ہوا تھا وہ تمام درخت میں ظاہر ہوا۔ گنجعلی ام الکتاب ہے اور تمام درخت کتاب لمبین۔

نقطہ تمام حروف کی ام الکتاب ہے جب نقطہ کو پھیلا یا اور کھینچا تو الف کی صورت میں ظاہر ہوا اور الف بیچ در بیچ تمام حروف میں ظاہر ہے۔ حروف کی ترکیب سے لفظ بنتا ہے اور لفظوں کی ترکیب سے جملہ اور جملہ کی ترکیب سے اور صفحہ کی ترکیب سے کتاب۔ تمام کتاب کا اجمال صفحہ میں اور صفحہ کا اجمال جملہ میں اور جملہ کا اجمال لفظ میں اور لفظ کا اجمال حروف میں اور حروف کا اجمال ایک الف میں اور الف ایک نقطہ میں تو معلوم ہوا کہ نقطہ تمام کتاب کی ام الام ہے۔

جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب اور تمام قرآن کریم کتاب مبین پھر سورہ فاتحہ کتاب مبین اور ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ ام الکتاب۔ ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ کتاب مبین اور ”بِسْمِ اللَّهِ“ کی با ام الکتاب اور با کتاب مبین اور نقطہ با کام الکتاب۔ اس اعتبار سے بسم اللہ کی با کا نقطہ ام الام قرار پایا۔

اسی طرح جو کچھ ذات میں چھپا ہوا تھا وہ ام الکتاب وحدت ذاتی میں ظاہر ہوا اور جو ام الکتاب ہونے کے اعتبار سے وحدت اور حقیقتِ محمد یہ ﷺ میں پھیلا ہوا تھا وہ مرتبہ علم میں تفصیلی طور پر ظاہر ہوا اس لئے علم باری تعالیٰ وحدت اور حقیقتِ محمد یہ ﷺ کی کتاب مبین قرار پایا۔ یہ مرتبہ حقائق الائیہ کی ام الکتاب ہے اور علم کتاب مبین قلم حقائق کوئی کی ام الکتاب ہے جو مرتبہ قلم میں باعتبار ام الکتاب چھپا ہوا تھا وہ مرتبہ لوح میں کتاب مبین ہو کر مفصل اور ظاہر ہوا۔

قلم باعتبار کلی اور اجمالی ہونے کے مرتبہ وحدت درحقیقت محمد ﷺ یعنی وحدت ذاتی کے مشابہ اور آئینہ ہے اور لوح باعتبار مفصل ہونے کے ذات باری تعالیٰ کے علم کے مشابہ اور اس کا آئینہ ہے۔

اسی طرح عرش مراتب کوئیہ مرکبہ کی ام الکتاب باعتبار اجمالی اور کل کے ہے اور کسی باعتبار تفصیل کے کتاب میں ہے جو کچھ عرش میں اجمالی اور کلی طور پر چھپا ہوا ہے وہ کسی پر تفصیل اور جزوی طور پر مفصل اور ظاہر ہے۔

مرتبہ عرش اعتبار اجمالی اور کل قلم کا مشابہ اور آئینہ ہے اور مرتبہ کسی باعتبار تفصیل کے مرتبہ لوح کے مشابہ اور آئینہ ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرتبہ عرش مرتبہ قلم کا مشابہ اور آئینہ اور مرتبہ قلم ذات کا مشابہ اور آئینہ جو ذات میں چھپا ہوا تھا وہ عرش پر ظاہر ہوا یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی مرتبہ لوح کے مشابہ اور آئینہ اور لوح مرتبہ علم کے مشابہ اور آئینہ۔ جو علم میں چھپا ہوا تھا وہ لوح پر ظاہر ہوا اور جو کچھ لوح میں چھپا ہوا تھا وہ کسی میں ظاہر ہوا ان تمام حقائق الالہیہ اور حقائق کوئیہ کا جامع حضرت انسان ہے اور جس پر تمام مراتب بالتفصیل کا حلقہ کھل گئے وہ خاتم النبیین سرکار مدینہ جناب محدث ﷺ کی ذات بارکات ہے۔

اسی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح گھنٹی میں تمام درخت ہے اسی طرح حقیقت محمد ﷺ میں کائنات کا ذرہ ذرہ اور فرد فرد حقائق الالہیہ اور کوئیہ مندرج ہیں جب درخت ظاہر ہو گیا تو گھنٹی تمام درخت میں جاری و ساری ہے اسی طرح حقیقت محمد ﷺ کے اعتبار سے حضور سرکار دو عالم ﷺ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ اور فرد فرد میں جاری و ساری ہیں۔

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جیسے نقطہ میں تمام کتاب مندرج ہیں اسی طرح حقیقت محمد ﷺ میں تمام عالم کی کتاب مندرج ہے اور اگر کتاب کو دیکھا جائے تو وہی نقطہ تمام کتاب میں جاری و ساری ہے اسی طرح حقیقت محمد ﷺ کے اعتبار سے حضور اکرم ﷺ تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔

حقائق الالہیہ اور حقائق کوئیہ کے جب آپ جامع ہیں تو پھر عرش ہو یا کسی لوح ہو یا قلم کوئی مرتبہ بھی حضور سے باہر نہیں۔

چونکہ حقائق الالہیہ کی ام الکتاب ذات باری تعالیٰ ہے اور کتاب میں علم باری تعالیٰ ہے آپ حقائق الالہیہ کے بھی جامع ہیں تو آپ سے نہ ذات باہر ہے اور نہ علم۔ اس وجہ سے عرش و کرسی کا دیکھنا، لوح و قلم کا دیکھنا اور ذات باری تعالیٰ کا دیکھنا ضروری قرار پایا۔ اسی لئے سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا ”انی رایت ربی عزوجل و ذات باری تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ" لے حضور اکرم ﷺ نے جو کچھ مشاہدہ فرمایا وہ حضور اکرم ﷺ کے اپنے ہی مراتب اور مقامات تھے۔ (تقریر سید امانت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

فائدة

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی تقریر سے کعبہ کا کعبہ سمجھنا مشکل نہ رہا بلکہ حاضروناظراور علم غیب بھلی اور نور علی نور اور استمداد وغیرہ مسائل بھی روشن و مبرہن ہو گئے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم مراتب ستہ بلکہ وحدۃ الوجود کے تمام مسائل کو حق اور حق مانتے ہیں اور جو اس راہ کا واقف ہی نہیں وہ کیا جانے کہ کعبہ کیا ہے اور کعبہ کا کعبہ کیا۔

فقیر اس بحث کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے وہ یہ کہ کعبہ جو ہمارے سامنے سیاہ غلاف اوڑھے مکر مہ میں جلوہ گر ہے یا اس آقا مولیٰ حضرت محمد ﷺ کی امت کے اولیاء کرام کا شیدا اور الہ ہے ان کی زیارت کے لئے ترستا ہے اور بسا اوقات ان کی زیارت کے ساتھ ان کے طواف کرنے کے لئے ان کے آستانوں تک پہنچ جاتا ہے۔

یہ گھریہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے
مزدہ ہو بے گھر کہ صلا اچھے گھر کی ہے

حل لغات

مزدہ (فارسی) خوشخبری، مبارک باد۔ صلا (عربی، مونث) آواز، پکار۔

شرح

یہ گند خضری اس کا در رحمت ہے جو گھر اور در سے پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ اے بے گھر و اور مفسلو کہ تمہیں اچھے گھر کی پکار نصیب ہوئی اور تم حاضر ہو گئے یعنی روپہ پر نور جلی الہی کا گھر عطاۓ الہی کا دروازہ ہے کہ اللہ عز وجل کے ظل اول دائم و اکمل و خلیفہ مطلق و قاسم ہر نعمت ﷺ اس میں تشریف فرمائیں۔

نصر عاول میں کعبہ کی حاضری کی طرف اور نصر عاول کی گند خضراء کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو محض شرافت و بزرگی کی وجہ سے اسی لئے علماء کرام نے فرمایا کہ اس قسم کی اضافت شریفی کہلاتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو ہے کہ مکان و زمان سے پاک اور منزہ ہے اسی لئے امام احمد رضا قدس سرہ نے کہا یہ کعبہ بیت اللہ ہے لیکن یہ اضافت صرف شرافت و بزرگی کی ہے ورنہ وہ ذات گھر وغیرہ سے پاک ہے ہاں خود اسی

نے ایک ایسے گھر کی نویں سالی ہے جس میں گھر والا بھی جلوہ گر ہے اور جو کچھ چاہو مانگو بلکہ وہاں صرف پہنچنے کی دیر ہے وہاں ملتا ہے بے مانگ۔

فلہذہ اے بے گھروں یعنی مغلسو اور کنگالوں جاؤ وہاں رحمت حق صدادے رہی ہے کہ

**اگر خیریت دنیا و عقبی داری
بدر گاہیش یا وہ رچہ خواہی**

اگر دنیا و آخرت کی آرزو ہے تو اس کی درگاہ میں آؤ اور جو چاہے لے لے۔

محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں
پہلو میں جلوہ گاہ عقیق و عمر کی ہے

حل لغات

قبہ (عربی، مذکر) برج، کلس، کنگرہ، گنبد یہاں یہی مراد ہے۔ پہلو، پسلی، کوکھ، طرف، رخ، بغل، گود، پاس، پڑوس، موقعہ، ڈھ۔ جلوہ، رونق اور معانی ہم پہلے لکھتے ہیں۔ گاہ، جگہ اب دونوں یکجا مستعمل ہوئے۔ عقیق، آزاد، کریم، حسین، سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اسم گرامی۔

شرح

اس سبز گنبد میں عرش کے مالک کے محبوب ﷺ آرام فرمائیں اور آپ کے پاس ہی سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونق افروز ہیں۔

چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود
بدلے ہیں پھرے بدلي میں بارش دررکی ہے

حل لغات

چھائے از چھانا، غالب ہونا، گھرنا۔ لگاتار، برابر، متواتر، پاس پاس، تابڑ توڑ۔ درود بالضم فارسی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رحمت و برکت، ملائکہ کی طرف سے ہوتا بخشش کی دعا، بندوں کی طرف سے ہوتا دعا وسلام، جانوروں کی طرف سے تو شیخ۔ بدلے ہیں از بدلنا بمعنی تبادلہ کرنا، پلٹنا۔ پھرے، پھرہ کی جمع، نگہبانی، حفاظت۔ بدلي (اردو) بادل کا چھوٹا نکلا کرنا۔ درز بالضم الدال وفتح القاء، موتی۔

شرح

گند خضرا پر ملائکہ کا ہجوم ہے مسلسل درود شریف کا درجہ جاری ہے پھرے بدلتے رہتے ہیں اور ہر وقت رحمت کی بارش کے موئی کی گند خضرا پر بارش برس رہی ہے۔

مزار پر انوار پر ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضرہ کر صلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے کہ منظور ان سب ملائکہ کو یہاں کی حاضری سے مشرف فرمانا ہے اگر یہ تبدیلی نہ ہوتی تو کروڑوں محروم رہ جاتے بدیلی یہاں بمعنی تبدیلی ہے اور اس سے بطور ابہام معنی ابر و سحاب کی طرف اشارہ کیا اور اس بدیلی میں دریعنی متینوں کی بارش بتائی جس سے مراد لگتا درود شریف ہے۔ (حاشیہ حدائق مطبوعہ کراچی)

حدیث شریف میں ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر روز ستر ہزار فرشتے آسمان سے اتر کر حضور اکرم ﷺ کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے بازوں سے تربت اطہر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور قبر انور کو اپنے جلو میں لے کر آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کے لئے ترقی کمالات کے طالب رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی یہ جماعت آسمان پر چلی جاتی ہے پھر دوسرے ستر ہزار فرشتوں کی جماعت آتی ہے جو صبح تک مشغول رہتی ہے۔ (جو اہل البحار فی فضائل النبی المختار صفحہ ۲۱۷)

سعدین کا قرآن ہے پہلوئے ماہ میں
جھرمٹ کئے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے

حل لغات

سعدین دو سیارہ سعید زہرہ مشتری اور قرآن بکسر قاف ان کا ایک درجہ واقعیت فلک میں جمع ہونا، یہاں سعدین سے مراد صدقی و فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ماہ و قمر رسول اللہ ﷺ اور تارے وہی ستر ہزار ملائکہ کہ مزار انور پر چھائے ہوئے رہتے ہیں۔ (حاشیہ حدائق)

جھرمٹ (ہندی) عورتوں کا حلقہ، بھیڑ، درمٹ سڑک کوٹنے کا یہاں درمیانہ معنی مراد ہے۔

شرح

صدقی و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں آرام فرمائیں اور حضور اکرم ﷺ کے ارد گرد ملائکہ کرام پھیلے ہوئے ہیں۔

ستہزار صبح ہیں ستہزار شام
یوں بندگی زلف و رُخ آٹھوں پھر کی ہے

شرح

گنبد خضراء کی حاضری کے لئے ستہزار ملائکہ صبح اور ستہزار شام کو حاضر ہوتے ہیں یونہی حضور اکرم ﷺ کی زلف عنبرین اور رُخ اطہر کی زیارت میں آٹھوں پھر بسر ہوتے ہیں۔

جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے
رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر ہے

شرح

ان ستہزار میں سے جو بھی ایک بار حاضر ہوا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی تاقیامت حاضر نہ ہو سکے گا اس لئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رخصت ہی صرف اس قدر نصیب ہوئی ہے۔

ترپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب
بے حکم کب مجال پرندے کو پرد کی ہے

شرح

تبدیلی کے وقت جانے والے فرشتے فراغ مجوب ﷺ کی جدائی سے ترپتے ہیں کہ پھر ہماری حاضری کے کہاں نصیب اور حکم کے بغیر مجال ہے کہ کوئی پرندہ پر ہلانے یعنی کوئی فرشتہ حکم کے بغیر نہیں جا سکتا۔

اے والے بیکسی تمنا کہ اب امید
دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے

شرح

جو شام کو حاضر ہونے والے تھے ان کو دن بھر شام کی امید گئی تھی کہ شام ہو اور ہم حاضر ہوں جو صبح کو حاضر ہونے والے تھے انہیں شب بھر صبح کی آس بندھی ہوئی تھی کہ صبح ہو اور ہم حاضر ہوں جو ایک بار حاضر ہو چکے ہیں انہیں نہ دن کو ولیٰ شام کی امید ہے نہ شب کو ولیٰ صبح کی کہ دوبارہ آنا ہو گا۔

یہ بدلياں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے
او ر بارگاہِ رحمتِ عالم تر کی ہے

حل لغات

بدلياں، بدلي کی جمع ہے بمعنی تبدلیاں۔ کروڑ، کروڑوں کی جمع ہے سو لاکھ کی تعداد، یہاں ان گنت ملائکہ مراد ہیں۔ رحمت، رحمۃ کا مصدر، آس، امید، آرز و ہتو قع، بھروسہ وغیرہ۔

شرح

فرشتوں کی یہ تبدلیاں نہ ہوں تو ان گنت کی امید یہ ٹوٹ جائیں حالانکہ یہ بارگاہِ رحمت عام سے عام تر ہے وہاں کسی کو بھی محروم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی وہ محرومی کا مقام ہے وہاں تو غیر بھی رحمت سے بھر کر لے جاتے ہیں یہ تو (ملائکہ) رحمتِ عالم ﷺ کے عاشقان باصفا ہیں۔

حدیث شریف میں ہے مزار پر انوار پر ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلوٰۃ وسلام عرض کرتے رہتے ہیں ستر ہزار صحیح آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں عصر کے وقت یہ بدل دیئے جاتے ہیں ستر ہزار دوسرے آتے ہیں وہ صحیح تک رہتے ہیں یونہی قیامت تک بدلي ہو گی اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے کہ منظور ان سب ملائکہ کو یہاں کی حاضری سے شرف فرمانا ہے اگر تبدلی نہ ہوتی تو کروڑوں محروم رہ جاتے۔ بدلي یہاں بمعنی تبدل ہے اور اس سے بطور ابہام معنی ابر و صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور بدلي میں دریعنی موتیوں کی بارش بتائی جس سے مراد لگاتار درود و شریف ہے۔ (حاشیہ حدائق)

محصوموں کو عمر میں صرف ایک بار
عاصی پڑے رہیں تو صلا عمر بھر کی ہے

حل لغات

یکبار کے اندر (اردو) لفظ ہے بمعنی مرتبہ، دفعہ، دوسرالفاظ، بار (فارسی لفظ، مذکر ہے) بمعنی بوجھ، اسباب، رخصت، خل اجازت وغیرہ یہاں بھی مراد ہے۔ عاصی، گنہگار۔ صلا، پکار و آواز۔ عمر بھر، تمام عمر۔

شرح

ملائکہ مخصوصین کو زندگی میں صرف ایک بار حاضری کی اجازت ہے اور ہمارے جیسے گنہگار عمر بھر وہاں ڈیرے

جادیں تو ان کو عمر بھر ہے یا آنے جانے کی اجازت ہے۔

زندہ رہیں تو حاضری بارگہ نصیب
مرجائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے

شرح

مدینہ پاک میں حاضری کے بعد وہاں رہنا نصیب ہو تو بارگاہ رسول ﷺ کے حضور حاضری نصیب ہوئی کہ دنیا میں اس جیسی نعمت سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اگر یہیں مدینہ پاک میں آگئی تو دائیٰ حیات اور دارالخلد کی زندگی عیش عشرت نصیب ہو۔

مفلس اور ایسے در سے پھرے بے غنی ہوئے
چاندنی ہر اک طرح تو یہاں گدیہ گر کی ہے

حل لغات

مفلس (عربی) غریب جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ چاندی (اردو) ایک سفید قیمتی دھات کا نام، کامیابی، مراد مندی، یہاں کامیابی مراد ہے۔ گدیہ (بالکسر) گدائی کرنا، گدیہ گر بمعنی گداگر۔

شرح

غنی ہوئے بغیر اس درِ اقدس سے کوئی واپس لوٹے (ہونہیں سکتا) اس لئے کہ یہاں تو ہر گداگر کامیاب و کامران ہے۔

جاناں پہ تکیہ خاک نہالی ہے دل نہال
ہاں بینواہ خوب یہ صورت گزر کی ہے

حل لغات

تکیہ (فارسی) آرام کی جگہ، سرہانے رکھنے کی چیز۔ نہالی (فارسی) تو شک، لحاف، رزائی۔ نہال (فارسی) تازہ لگایا ہوا پودا، مطلق درخت تو شک، بستراشکار، یہاں خوش و خرم مراد ہے۔ بینواہ، مفسو۔ گزر، راستہ، گھاٹ، دخل، رسائی، نجماہ یہاں یہی مراد ہے۔

شرح

نبی پاک ﷺ کی آرام گاہ خاک کامیدان ہے جو رزائی کی طرح بچھی ہوئی ہے باوجود اس کے آپ خاک پر آرام فرمانے سے بہت خوش ہیں۔

اے بیٹو اور مغلسوں یہ یقینی خوب دنیا میں نجاء کی صورت ہے کہ تمہارا آقا تمہارے پاس آرام فرمائے اسی لئے جہاں تک ہو سکے ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

ہیں چتر و تخت سایہ دیوار و خاک در
شاہوں کو کب نصیب یہ دھج کرو فر کی ہے

شرح

حضور اکرم ﷺ کے لئے دنیا کے تمام تخت و چتر شاہی سایہ دیوار اور درِ اقدس کی خاک کی طرح ہیں یہ دھج اور شان و شوکت بادشاہوں کے کہاں نصیب۔

اس پاک کو میں خاک برس رنجاک ہیں
سمجھے ہیں کچھ یہی جو حقیقت برس کی ہے

حل لغات

خاک برس، عاجز سر۔ بخاک، عاجز، برس بھی گزر ہو، خوب سر ہوتی ہے یعنی خوب گزرتی ہے۔

شرح

اس پاک گلی میں تو بہت سے سروں پر مٹی عجزو نیاز کا پیکر ہیں اور بہت سے سر اس خاک پر عجزو نیاز سے یعنی بچھے ہوئے ہیں اے لوگو کچھ سمجھے بھی ہوں کہ انسان کی حقیقی زندگی صرف یہی ہے کہ وہ مدینہ پاک میں برس ہو۔

کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے
جو آج جھولیوں میں گدايان در کی ہے

شرح

اے تاجدارو، شہنشاہوں کیا تم نے کبھی خواب میں یہ نعمتیں دیکھی ہیں جو کہ اس درِ اقدس کے گداگروں کی جھولیوں میں ہیں یعنی جسے در رسول ﷺ سے نعمت ملی وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہو گی۔

جاروکشوں میں چہرے لکھے ہیں ملوک کے
وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے

حل لغات

جاروکش مخفف جاروب کش، دونوں سرکاروں میں سلطان روم (ترکی باشا وغیرہ) سلاطین اسلام کے چہرے
جاروب کشوں میں لکھے ہیں، سرکاروں سے اس کی تخلواہ پاتے ہیں، ان کا نائب رہتا اور یہ خدمت بجالاتا ہے (حاشیہ
حدائق) بھر، مقدار، سارا، تمام۔

شرح

باشا ہوں کے نام مدینہ پاک کے جھاؤں برداروں میں ہیں وہ بھی ہر ایک کے نصیب نہیں بلکہ صرف جھاؤں
برداروں کے نام کی مقدار پر جیسا کہ اوپر گذرا ہے کہ وہ سلاطین اپنے نام جھاؤں برداروں میں لکھوا کرتخلواہ انہی
جھاؤں برداروں کے نام سے پاتے لیکن جھاؤں برداری ان کے کب نصیب وہ تو شاہی امور میں مصروف تھے اسی لئے اس
کام کے لئے یہاں انہوں نے اپنے ملازم بھیت نائب مقرر کر کھے تھے۔

طیبہ میں مر کے سختے چلے جاؤ آنکھیں بند
سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے

شرح

حدیث میں فرمایا

من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمیت بھافانی

تم میں جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرنा کہ جو اس میں مریگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔

عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زادہ
مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے

حل لغات

چہیتے، پیارے، لاڈلے۔ جانچ، تحقیق، تجسس، پڑتاں۔

شرح

اے زاہد، حشک ملاوں، عشق کے کوئے جہاں ہم حاضر ہیں یہ طیبہ محبوب کریم ﷺ کا شہر مدینہ ہے کہ یہاں کے باشی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں یہ مکہ معظمہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی جانچ پڑتا ہوتی ہے۔

شانِ جمال طیبہ جاناں ہے نفعِ محض
و سعیتِ جلالِ مکہ میں سود و ضرر کی ہے

شرح

طیبہ محبوب ﷺ کے جمال کی کیا شان ہے کہ اس میں نفع ہی نفع ہے ضرر کا نام تک نہیں وہ مکہ معظمہ ہے جہاں جلال کی وسعت ہے کہ اس میں نفع و ضرر دونوں ہیں۔ ثواب ہے تو ایک لاکھ ایک کے بد لے اور لاکھ بار سزار ہے ایک گناہ کے عوض۔

کعبہ ہے بیٹکِ انجمنِ آراءِ دہنِ مگر
ساری بہارِ دہنوں میں دو لہا کے گھر کی ہے

شرح

بیٹک کعبہِ دہنِ انجمنِ آراء ہے لیکن نہ صرف کعبہ بلکہ تمامِ دہنوں کی ساری بہارِ دو لہا یعنی سر در کا نبات ﷺ کے گھر کے طفیل ہے کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔

کعبہِ دہن ہے تربتِ اطہرِ نبیِ دہن
یہ رشکِ آفتاب وہ غیرتِ قمر کی ہے

شرح

کعبہ معظمہِ دہن ہے لیکن قبرانور تازہ اور نبیِ دہن ہے یہ قبرانور رشکِ آفتاب ہے کہ یہاں آفتاب کے آفتاب آرام فرماتے ہیں اور وہ کعبہ قبر کی غیرت ہے۔

دونوں بنیں سجیلیِ انیلیِ بنیِ مگر
جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے

حل لغات

سجیلی، بجیلا کی مونث بمعنی خوبصورت، بنی سنوری۔ انیلی، انیلا کی مونث بمعنی عجیبہ، زرالی۔ پی (اردو) پیارا، شوہر،

معشوق۔ سہاگن (اردو) خاوند والی عورت۔ کنور، اڑکا، بالا، بیٹا، پتر، راجہ کا بیٹا، راج والا، عزت کا خطاب، بربان ہندی
بمعنی امیر، سردار، خوبصورت، حسین۔

شرح

کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ دونوں نہایت خوبصورت حسین و جیل ہیں لیکن اس کی دھجیج بڑھ کر ہے جو اپنے محبوب
کے ساتھ ہے وہ سہاگن اپنے شوہر یعنی سردار حسین و جیل کے پاس لئے ہوئے ہے۔

سربرز وصل یہ ہے سیہ پوش بھروسہ
چمکی دوپتوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے

شرح

مزار اقدس پر غلاف بزر ہے اور کعبہ معظمہ پر سیاہ اب مطلب یہ ہوا گند خضراء بہر پوش اسی لئے ہے کہ یہ وصال کی
 وجہ سے سربرز ہے اور کعبہ معظمہ بھروسہ فراق کی وجہ سے سیہ پوش ہے دوپتوں سے وہ چمک رہی ہے کہ اس کے پاس محبوب
ہے اور جو بھر میں ہے اس کی حالت وہی ہے جو خیلی جگر کی ہوتی ہے کہ بھروسہ فراق سے اس کی حالت کا یوں ہی ہونا لازمی امر
ہے۔

ما وشا تو کیا کہ خلیلِ جلیل کو
کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے

حل لغات

ما وشا، ہم اور تم یعنی عوام۔ خلیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، جلیل بزرگ۔

شرح

ہم تم کیا ہے کل قیامت میں دیکھنا کہ سیدنا خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی تمنا و آرزو ہو گی کہ اے سرورِ کوئی نبی ﷺ
ایک نظر کرم ادھر بھی ہو۔

حدیث شریف میں ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بروز قیامت تمام مخلوق میری طرف نیاز مند ہو گی یہاں تک
کہ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں صرف حضور اکرم ﷺ کو ہر ایک کی نجات کی
فرک سب سے زیادہ ہو گی۔

ایک دفعہ حضرت صدیقہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا میزان پر یا صراط یا کوثر پر، کبھی سجدے میں رو رو کر شفاعت فرمائے ہیں کبھی صراط پر گروں کو سنجال رہے ہیں، کبھی گنہگاروں کے ہلکے پلٹے بھاری فرمائے ہیں، کوئی دامن پکڑ کر محل گیا ہے، کوئی بے کس پکار رہا ہے کہ حضور ادھر آئیے ورنہ میں چلا، کوئی ان کا منہ تک رہا ہے، کسی کو فرشتے جہنم میں لے چلے ہیں وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھ رہا ہے غرضیکہ ایک جان ہے اور فکر جہا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسِّلْمْ

مولانا حسن رضا خاں صاحب نے قیامت کا نقشہ یوں کھینچا ہے

کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر	کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا
کسی کے پلہ پہ ہوں گے وقت وزن عمل	کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا
کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ	نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا
کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جنم	وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا
عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے	خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا

یہ تو قیامت کا حال ہے دنیا میں کرم کا یہ حال کہ سب گنہگار رات بھروسے ہیں اور وہ گنہگاروں کے لئے رات بھر روتے ہیں۔ ایک ایک رکعت میں یہ پڑھتے پڑھتے سوراً کر دیتے ہیں

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ (۱۸)، سورۃ المائدۃ، آیت ۱۸)

اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔

قیامت میں ہمارے ماں باپ، قرابت دار اپنی اپنی فکر میں مگر ہمارے والی امت کے رکھوالی جن پر سارے جہاں کے ماں باپ فدا وہ امت کی فکر میں۔

اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول
یہ جانیں ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے

شرح

ہمیں یہ شرف کیا کچھ کم ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے حضور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں باقی رہی یہ بات

کہ ہماری دعا کیس قبول ہوئی ہیں یا نہیں اس کی ہمیں کیا فکر جبکہ جس بارگاہ میں حاضر ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا تعالیٰ ہاں قبولیت کی امید قوی اس لئے کرتا شیر قبول دعا کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
جودن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی
جس کو عمر کی دعا دی اس کی عمر میں برکت ہوئی، کسی کو مال کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو علم کی دعا دی، کسی کو حاکم ہونے کی جس کو جو بنادیا وہی بن گیا۔

مشکوٰۃ کتاب الامرۃ باب العمل فی القضاۃ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھ کو یہن کا قاضی مقرر فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میں نو عمر ہوں اور مجھے قضا کا علم بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل و زبان کو بدایت دے جاؤ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں کسی فیصلہ میں رکا ہی نہیں۔

جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خبر
زنا خریدہ ایک کنیز ان کے گھر کی ہے

شرح

اے بندہ خدا جو چاہتا ہے وہ حضور اکرم ﷺ سے ہی مانگ اس لئے کہ دونوں جہانوں کی خیر و برکت آپ کے دروازہ پر اس لوہڈی کی طرح ہے جسے زر سے نہ خریدی گئی ہو بلکہ مفت حاصل ہوئی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دارین کی خیر و برکت اپنے فضل و کرم سے مفت عطا فرمائی ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُوْ (پارہ ۳۰، سورہ الکوثر، آیت ۱)

اے محظوظ بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضُوْ (پارہ ۳۰، سورہ الصھی، آیت ۵)

اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

فائدة

مقام عطا میں رسول اللہ ﷺ کے سوال اور مطالبہ کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اگر ان کا سوال اور مطالبہ مذکور ہوتا تو ہر آدمی کہتا کہ یہ عطا اس سوال اور عرض داشت کے مطابق ہو گی جب کسی آرزو اور تمنا کا ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عطا

کریم اور جواد مطلق کے شایان شان ہوگی اور جب عطا کرنے والا غیر محدود اور غیر متناہی قدر توں اور خزانوں کا مالک ہے تو عطا بھی حدود نہایت سے منزہ اور پاک ہوگی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج انہوٰۃ اور اخبار الاحیا میں ہے

هر مرتبہ کہ بود ر دامکاں بروست ختم ہر نعمتے کو ہدایت خدا شد برو تمام

اور یہ خیر و برکت کی عطا اللہ سے مفت ہی تو ہے کیونکہ اس بے پناہ غنی ذات کو عوض لینے کی ضرورت ہی نہیں۔

رومی غلام دن جبشی باندیاں شبیں

گنتی کنیززادوں میں شام و سحر کی ہے

شرح

دن رومی غلام کی طرح ہے چونکہ دن روشن ہوتا ہے اسی لئے اسے رومی غلامی فرمایا کہ رومی غلام سفید رنگ ہوتا ہے، راتیں کالے کی رنگ کی باندیاں (کنیزیں) ہیں۔ شام و سحران کی کنیززادیاں ہیں یعنی شام و سحر بھی حضور ﷺ کی کنیززادوں میں شمار ہوتے ہیں۔

اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لئے
دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے

شرح

جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے جس کی چھت عرشِ معلیٰ ہے بعض گدایاں بارگاہ اگر تجوب کریں تو ہم جیسے پست و بے مقدار اور اتنی بلند عطا ہو جواب بتایا ہے کہ یہ تمہارے استحقاق و لیاقت کی بناء پر نہیں بلکہ دینے والے کی رحمت و عطا ہے دیکھتے نہیں کہ بھیک کیسے اونچے گھر کی ہے تو اس کی اتنی بلندی کیا عجب ہے۔ (حاشیہ حدائق)

عرشِ بریں پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ

اتری ہوئی شبہ ترے بام و در کی ہے

شرح

عرشِ بریں کو خروناز ہے کوہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں فردوس کا باعث ہوں دراصل اس کا یہ خیر بجا اس لئے ہے کہ اس

پر حضور اکرم ﷺ کے شانہ کریمہ کی چھت اور دروازہ کی فوٹو اتری ہوئی ہے صرف اسی معمولی سی نسبت سے اسے خروناز

ہے اور بجا ہے۔

وہ خلد جس میں اترے گی ایمار کی برات
ادنی پنجاہر اس مرے دولہا کے سر کی ہے

شرح

ایمار کا مرتبہ مقریں سے بہت کم ہے یہاں تک کہ حنات الابر اسیات المقر میں پھر مقریں میں بھی درجات بے شمار ہیں اور انہیں بھی اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو جو درجے میں گے وہ بھی سب حضور ہی کا تصدق ہے اسی لئے اسے ادنی پنجاہر کہا اور نہ جنت میں کچھ ادنی نہیں۔

فائدة

حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ جو ہر اور انسان میں تو پانچ درجہ کا فرق ہے کہ انسان کے اوپر حیوان اس پر جسم نامی اس پر جسم مطلق اس پر جو ہر مگر بشر اور حضور اکرم ﷺ میں ستائیں درجہ فرق ہے یعنی بشریت سے مصطفویت ۲۷ درجہ بلند و بالا ہے جس کے بعد صرف الوہیت ہی کا درجہ ہے یہاں عبدیت کے سارے درجے ختم ہو چکے ہیں۔ بشر پر مومن اس پر صالح اس پر شہید اس پر متقی اس ہر مجتہد اس پر اوتا داں اس پر ابدال اس پر قطب الاقظاب اس پر غوث اس پر غوث العظیم وغیرہ پھر اس پر تابعی اس پر صحابی پھر اس پر انصاری پھر ان پر مہاجر پھر ان پر صدیق پھر ان پر نبی پھر ان پر رسول پھر ان پر اول العزم پھر ان پر خلیل پھر ان پر خاتم النبیین پھر اس وصف پر رحمۃ للعالمین پھر ان پر حبیب پھر اس پر درجہ مصطفیٰ ﷺ یہ اجمالی ذکر ہے تو جب ہم عام بشر عالم انوار اور ملائکہ کی مثل نہیں حالانکہ وہ بھی جو ہر ہیں اور ہم بھی جو ہر مگر پانچ درجہ فرق نے فرق عظیم پیدا فرمادیا تو عام بشر اور مصطفیٰ ﷺ برادر کس طرح ہونگے؟ حالانکہ یہاں ۲۷ درجہ فرق ہے۔ (شان حبیب الرحمن)

فائدة

یہ فرق بشریت کے سمجھانے کے لئے ہے اس سے شعر مذکور کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ مومن سے لے کر نبی کے درجہ تک جتنے مراتب ہیں اگر چوہ کتنے ہی اعلیٰ سہی لیکن ہیں تو ہمارے نبی پاک ﷺ کے طفیل۔

غبر زمیں عیر ہوا مشکِ تر غبار
ادنی سی یہ شاخت تری رہگرد کی ہے

حل لغات

عبرا، ایک قسم کی خوبصورت چیز جو موم کی طرح پھل جاتی ہے۔ عیر، صندل، مشک، گلب کام رکب۔

شرح

مدینہ کی زمین عنبر اور اس کی ہوا مشک گلب اور اس کی گرد و غبار مشک تر ہے محسوس ہوتی ہے یہ ادنی سی علامت ہے اس کی کہ حضور اکرم ﷺ کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس راہ سے حضور گزر فرمائیں وہاں کی زمین عنبر ہو جاتی ہے ہو انبر بن جاتی ہے غبار مشک تر ہو جاتا ہے۔

اس شعر میں حضور اکرم ﷺ کی جسمانی خوبی کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل فقیر اسی شرح حدائق کے گذشتہ اوراق میں عرض کر دی ہے اگر کسی کو اس سے مزید تفصیل چاہیے تو فقیر کا رسالہ ”خوبیے رسول“ کا مطالعہ فرمائیں۔

سرکار ہم گنواروں میں طرزِ ادب کہاں
ہم کو تو بس تمیز بھی بھر کی ہے

حل لغات

گنواروں، گنوار کی جمع بمعنی دیہات کا رہنے والا، جنگلی، بے وقوف، جاہل، غیر مہذب، پھوہڑ، اناڑی۔ بھر، مقدار، تمام، سارا۔

شرح

اے سرکار مدینے ﷺ ہم بے وقوف میں ادب کا طریقہ کہاں ہمیں تو بس بھی بھیک کی مقدار پر تمیز ہے یعنی بس ہمیں تو صرف اتنا سمجھ آیا کہ آپ کے در کی بھیک ہی کام آئیگی اسی لئے حاضر ہو گئے ہیں باقی رہا ادب وہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ گنوار ہیں ہمیں آپ کے ادب کی کیا خبر۔

جبریل کی عقل دندگ

جب جبریل علیہ السلام شبِ معراج حضور اکرم ﷺ کے لینے آئے تو آپ آرام فرماتھے آپ کو جگانے کے لئے جران تھے کہ کیسے جگاؤں۔ اب کوئی ایسی حرکت نہ کرڈا لوں کر بے ادبی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہونک

کافوری اس لئے بنائے گئے کہ تم حبیب اکرم ﷺ کے قدم مبارک چوم لو۔

مالکیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے

شرح

سائل کو نہ ملنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جس سے مانگا وہ سرے سے انکار کر دے یہ تو لا ہوا یعنی نہیں دوسرے یہ کہ شرط پر مٹا لے کہ اگر ہمارے پاس ہوا تو دیں گے یا اگر تم نے فلاں کام کیا تو دیں ان کی سرکار میں یہ دونوں باتیں نہیں تو ضرور ہمیں امید ہے کہ جو ہم مالکیں گے پائیں گے بلکہ منہ مانگی مراد سے بھی بڑھ کر۔

احادیث مبارکہ

(۱) ایک شخص کے کھیت میں لمبی گلزاری بیدا ہوئی تھی کے طور پر حاضر بارگاہ کی ایک کے عوض میں ایک لپ بھرسنا عنایت فرمایا۔

(۲) ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور اکرم ﷺ کی ملکیت میں آیا کسی نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ اب اللہ نے حضور کو بہت ہی مالدار اور تو نگر بنا دیا فرمایا کہ تو نے میری تو نگری کیا دیکھی؟ عرض کیا کہ اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں فرمایا جا سب تجھ کو عطا، فرمادیں وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچ اور قوم والوں سے کہا کارے لوگوں ایمان لے آؤ تم رب کی محمد رسول اللہ ﷺ اتنا دیتے ہیں کفر کا خوف نہیں فرماتے۔

(۳) حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا دیتے ہیں کفر کا خوف نہیں فرماتے۔

اُف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تے حضور
ہاں تو کریم ہے تری خود گزر کی ہے

حل لغات

اُف، آہ، افسوس۔ خو، عادت، خصلت۔ درگذر، معافی، باز آنا، چھوڑنا۔

شرح

افسوس کا تینی بے حیائیاں کہ جن کا کوئی شمار نہ ہو پھر کس منہ سے آپ کے حضور پیش ہو سکیں لیکن آپ تو ایے کریم ہیں کہ بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرمادیتے ہیں اور درگزر کرنا آپ کی عادت و خصلت ہے۔

احادیث مبارکہ

(۱) حضور اکرم ﷺ طائف میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے بہت گستاخیاں کیں یہاں تک کہ آپ کو زخمی کر دیا۔ حضرت جبریل امین نے آکر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں ابھی ان کو ہلاک کر دیا جائے فرمایا۔ اللہ ان پر ہر سانے والوں پر رحمت کے پھول بر سادے حضرت جبریل نے عرض کیا۔ حبیب اللہ یہ توبہ ایمان نہ لائیں گے فرمایا امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے۔

(۲) ہجرت سے پہلے مکہ معظیمہ میں کفار نے مسلمانوں کو اس قدر راذیت دی کہ ان کا پیانہ لبریز ہو گیا چنانچہ حضرت خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مشرکین سے شدت و ختمی پہنچی۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سرمبارک کے نیچے چادر کر کہ کعبہ کے سامنے میں لیٹئے ہوئے تھے میں نے عرض کیا آپ مشرکین پر بدعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ انٹھ بیٹھے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر لو ہے کی کنگھیاں چلانی جاتیں جس سے گوشت پوشت سب علیحدہ ہو جاتا اور ان کے سر پر آرے رکھے جاتے اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیجے جاتے مگر یہ اذیتیں ان کو دین سے بر گشته نہ کر سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو مکال تک پہنچائے گا یہاں تک کہ ایک سور صناء سے حضرموت تک سفر کریگا اور اسے خدا کے سوا کسی کا ذر نہ ہو گا۔ (بخاری)

(۳) جب حضور اکرم ﷺ غزوہ (رمضان ۲۲ھ) سے واپس تشریف لائے تو اسے راستے میں مقام صفراء میں آپ کے حکم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر بن حارث بن علقہ بن کلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کو قتل کر دیا۔ نظر مذکور ان امراء قریش میں سے تھا جن کا شغل آنحضرت ﷺ کی ایڈ ارسانی اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا تھا۔ اسی نظر کی بیٹی تھیں نے جو بعد میں اسلام لائی اپنے باپ کا مرثیہ لکھا جس کے اخیر میں یہ شعر ہیں

یا محمد ولانت ابن نجیۃ

اب محمد ﷺ بیٹک آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جو اپنی قوم میں شریف ہے اور آپ شریف اصل والے مرد ہیں۔

ما کان ضرل لو مننت وربما

آپ کا کچھ نہ گھڑتا تھا اگر آپ احسان کرتے اور بعض وقت جوان احسان کرتا ہے حالانکہ وہ غضبناک اور نہایت حشناک ہوتا ہے۔

واحق ان کان عشق یعتق

والنصر اقرب من اسرت قرابۃ

اور نظر آپ کے تمام قیدیوں میں قرابت میں سب سے زیادہ قریب تھا اور آزادی کا زیادہ مستحق تھا اگر ایسی آزادی پائی جائے کہ جس سے آزاد کیا جائے۔

جب یہ شعر حضور سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کو پڑھ کر آپ اشاروئے کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا کہ اگر یہ اشعار نظر کے قتل سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتے تو میں ضرور اسے قہیلہ کے حوالے کر دیتا۔ (الاستیغاب)

(۲) جنگ بدر کے پچھے دن بعد ایک روز عیمر بن وہب بن خلف قرشی ججی اور صفوان بن امیہ بن خلف قرشی ججی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عیمر نہ کو رشیا طین قریش میں سے تھا اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو اذیت دیا کرتا تھا اس کا بیٹا وہب بن عیمر اسی ران جنگ میں تھا۔ عیمر و صفوان کے درمیان یوں گفتگو ہوئی

عیمر: بدر میں ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کیا مصیبتوں میں اٹھائیں ظالموں نے کس بے رحمی سے ان کو گڑھے میں پھینک دیا۔

صفوان: اللہ کی قسم ان کے بعد اب زندگی کا لطف نہ رہا۔

عیمر: اللہ کی قسم تو نے چ کہا اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا اور عیال نہ ہوتا جس کے تلف ہو جانے کا اندر یہ شہر ہے تو میں سوار ہو کر محمد کو قتل کرنے جاتا کیونکہ اب تو ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھ میں گرفتار ہے۔

صفوان: آپ کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ کا عیال میرے عیال کے ساتھ رہے گا میں آپ کے بال بچوں کا متنکفل ہوں جب تک وہ زندہ ہیں۔

عیمر: بس میرے اور آپ کے درمیان۔

صفوان: بسر و چشم (عیمر کی روائی کے بعد لوگوں سے) تم شادر ہو کہ چند روز میں تمہارے پاس ایک واقعہ کی خبر آیگی جس سے تم جنگ بدر کی سب مصیبتوں بھول جاؤ گے۔

(عیمر زہر میں بھی ہوئی تیز تکوار لے کر مدینہ میں آتا ہے) اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر میں مسلمانوں پر خدا کی عنایات کا ذکر کر رہے تھے۔ عیمر تکوار آڑے لٹکاتے ہوئے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے میں بٹھا دیتا ہے۔

عمر فاروق:- (عمر کو دیکھ کر) یہ کتاب میں خدا عمر کی شرارت کے لئے آیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ:- عمر تو نے جاہلیت کا تجیہ کیا مگر اللہ عز وجل نے ہمیں تیرے تجیہ سے بہتر عطا فرمایا ہے اور وہ سلام ہے جو اہل بہشت کا تجیہ ہے۔

عمر:- یا محمد اللہ کی قسم یہ تجیہ آپ کو تھوڑے دنوں سے ملا ہے۔

رسول اللہ ﷺ:- عمر کیون کراں نا ہوا؟

عمر:- اپنے بیٹے کے لئے جو آپ کے پاس اسیر ان جنگ میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ:- پھر گلے میں توار آڑے کیوں لٹکائی ہے۔

عمر:- خدا ان تکاروں کا برا کرے انہوں نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

رسول اللہ ﷺ:- سچ بتاؤ کس لئے آئے ہو؟

عمر:- فقط اپنے بیٹے کے لئے۔

رسول اللہ ﷺ:- نہیں بلکہ تو اور صفوان دونوں حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو نے مقتولین بدر کا ذکر کیا جو گڑھے میں چینکے گئے پھر تو نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض اور باری عیال نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کرنے لکتا۔ یہن کر صفوان نے بار قرض و عیال اپنے ذمہ لیا بدیں غرض کتو مجھے قتل کر دے مگر اللہ تیرے اور اس غرض کے درمیان حائل ہے۔

عمر:- میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں یا رسول اللہ ہم اس آسمانی وحی کو جو آپ پر نازل ہوتی تھی جھٹلا دیا کرتے تھے آپ نے جوبات بتائی وہ میرے اور صفوان کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ خدا کے سوا آپ کو کسی نہیں بتائی حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی توفیق بخشی۔

اشهدان لا الله الا الله وحده لا شريك له و اشهدان محمدًا عبده رسوله

رسول اللہ ﷺ:- (اپنے اصحاب سے) تم بھائی عمر کو مسائل دینی سکھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو۔ (سیرت ابن ہشام)

(۲) حضرت رافع بن خدج بیان کرتے ہیں غزوہ انمار (ریق الاول سی) میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے آپ کی آمد کی خبر سن کر اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ غطفان نے دعشور بن حارث کو جوان کا سردار تھا کہا کہ محمد اس وقت اپنے اصحاب سے علیحدہ ہے تمہیں ایسا موقع نہ ملے گا دعشور تیز تکوار کھینچ کر آپ کے سر پر آ کر ڈاہوا۔ آپ بیدار

ہوئے تو کہنے لگا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے ہٹا دیا اور وہ گر پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے تلوار لے کر کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا وہ بولا کوئی نہیں۔ غرض رسول اللہ ﷺ نے اس سے کچھ تعرض نہ کیا اور وہ ایمان لے آیا۔ (الاصاب)

(۶) غزوہ احمد (Shawal ۳ھ) میں کفار نے آپ کا دانت مبارک شہید کر دیا اور سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی کر دی اس حالت میں آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (مواہبِ الدُّنْيَا وَشَفَاعَ الشَّرِيف)

(۷) حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ غزوہ نجد (غزوہ ذات الرقائع جمادی الاولی ۲ھ) میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ واپس آتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں آپ کو دو پھر ہو گئی۔ آپ ایک درخت کے سایہ میں اترے اور اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی اور آپ کے اصحاب بھی ایک ایک کر کے درخت کے سایہ میں اتر پڑے۔ اسی اثناء میں آپ نے ہمیں آواز دی ہم حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدود آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سورہاتھا اس نے آکر میری تلوار کھینچ لی۔ میں بیدار ہوا تو یہ تلوار کھینچے میرے سر پر کھڑا تھا کہنے لگا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ میں نے کہا اللہ یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی آپ نے اس کو پکھنہ زانہ دی اس اعرابی کا نام غورث بن حارث تھا۔ (بخاری)
اسی طرح کے دو واقعے ہیں دیکھئے فقیر کی تفسیر فیوض الرحمن پارہ

(۸) حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ ایک غزوہ مریسیع شعبان ۵ھ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپٹر مارا۔ انصاری نے انصار اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لئے پکارا رسول اللہ ﷺ نے سناتو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سارا ماجرا عرض کیا گیا تو فرمایا کہ یہ دعویٰ جاہلیت اچھا نہیں اس طرح رفع فساد ہو گیا۔ رأس المناقین عبد اللہ بن ابی خزر جی نے سناتو کہنے لگا کہ اگر ہم اس سفر سے مدینہ میں پہنچ گئے تو جس کا اس شہر میں زور ہے وہ بے قد ر شخص کو نکال دیگا۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں مگر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اسے جانے دو کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ جائے غور ہے کہ آپ کا یہ سلوک اس شخص کے ساتھ ہے جو عمر بھر منافق رہا جس نے آپ کو غلط بتایا، جو جنگ احمد میں عین موقع پر ہی سوکی جمعیت لے کر راستہ میں سے واپس آگیا اور ہیشہ آپ کی مخالفت و توہین میں سرگرم رہا۔

(۹) جب حضرت محمد ﷺ غزوہ مرتیع سے واپس ہوئے تو راستے میں واقعہ افک پیش آیا جس کا بانی یہی رأس المانفین تھا۔ رسول ﷺ کو اس کا علم تھا مگر معاملہ گھر کا تھا اس لئے فیصلہ خدا پر چھوڑتا کہ منافقین کو چون و چرا کی گنجائش نہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تکذیب اپنے کلام پاک میں کر دی۔ باس یہ جب یہ منافق مرات تو آپ کو نمازِ جنازہ کے لئے بایا گیا جب آپ اس پر نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول ﷺ یا آپ ابن ابی پر نماز پڑھتے ہیں جس نے فلاں فلاں روز ایسا ایسا کہا۔ اس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا عمر ہٹو جب اصرار کیا تو فرمایا کہ استغفار و عدم استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ بار استغفار سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں ویسا ہی کرتا جب آپ نمازِ جنازہ سے فارغ ہو کرو اپس تشریف لائے تو آئندہ کے لئے حکم ممانعت نازل ہوا۔ (بخاری)

(۱۰) فرات بن حیان جو انصار میں سے ایک شخص کا حلیف تھا ابو سفیان کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی پر مامور تھا۔ غزوہ خدق (ذی القعده ۵ھ) میں وہ جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا آنحضرت ﷺ نے اس کو قتل کا حکم دیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر لے چلے راستے میں اس کا گزر انصار کے ایک حلقة پر ہوا تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں ایک انصاری نے رسول ﷺ کو اطلاع دی کہ فرات کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ان کے ایمان پر چھوڑتے ہیں ان میں سے ایک فرات ہے۔ حضرت فرات بعد میں صدقی دل سے ایمان لائے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو یہامہ میں ایک قلعہ میں عطا فرمائی جس کی آمد فی چار ہزار دو سو تھی۔

(۱۱) شمامہ بن آٹال الیمی جو اہل یہامہ کا سردار تھا رسول ﷺ کو قتل کرنا چاہتا تھا آپ نے دعا فرمائی تھی کہ خدا یا اس کو میرے قابو میں کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا وہ بنو خنیفہ میں سے ایک شخص شمامہ بن آٹال کو پکڑ کر لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ آنحضرت ﷺ اس کی طرف نکلے تو پوچھا شمامہ کیا کہتے ہو؟ شمامہ نے کہا یا محمد اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اگر آپ زرفدی یہ چاہتے ہیں تو جس قدر مانگیں دے دوں گا۔ آپ نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی تیرے روز آپ نے اس کا وہی جواب سن کر حکم دیا کہ شمامہ کو کھول دو۔ یہ عنایت دیکھ کر اس نے مسجد کے قریب ایک درخت کی آڑ میں غسل کیا اور مسجد میں آکر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا۔ محدث خدا کی قسم میرے زندیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا اب وہی چہرہ

سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ (بخاری)

فائدة

وفا الوفاء میں ہے کہ حضرت ثما مہم کی گرفتاری شروع ۲ھ میں ہوئی۔

(۱۲) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے مرد کوہ تنعیم سے رسول اللہ ﷺ پر آپ ہے۔ وہ ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ رسول ﷺ اور آپ کے اصحاب کو غافل پائیں آپ نے ان کوڑائی کے بغیر پکڑ لیا اور زندہ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ يُبَطِّنُ مَكَّةً. (پارہ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۲۲)

اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھان سے روک دیئے وادیٰ مکہ میں یہ واقعہ قضیہ حدیبیہ (ذی القعده ۲ھ) میں ہوا تھا۔ (مشکلاۃ)

(۱۳) جب آنحضرت ﷺ غزوہ خیر (محرم ۴ھ) سے واپس تشریف لائے تو ایک روز سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ نسب بنت حارث نے بکری کا گوشت بھون کر زہرآلود کر کے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا جسے آپ نے اور آپ کے چند اصحاب نے کھایا۔ باوجود اعتراض کے آپ نے اس یہودیہ کو اپنی طرف سے معاف کر دیا مگر جب اس کے سبب سے ایک صحابی نے انتقال فرمایا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا۔

(۱۴) اسی سال ماہ محرم ہی میں لبید بن عاصم یہودی منافق نے آنحضرت ﷺ پر جادو کر دیا معلوم ہو جانے پر آپ نے اس سے بھی کچھ تعرض نہ فرمایا۔ (بخاری)

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میری ماں شر کر تھیں میں ان کو دعوتِ اسلام دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوتِ اسلام دی تو انہوں نے رسول ﷺ کی شان میں مجھے مکروہ الفاظ سنائے میں روتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں گیا اور واقعہ عرض کر کے دعا نے ہدایت کی درخواست کی۔ آپ نے یوں دعا فرمائی خدا یا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں اس دعا سے خوش ہو کر گھر آیا تو دیکھا کہ کواڑ بند ہیں میری ماں نے میرے قدم کی آہٹ سن کر کہا ابو ہریرہ یہیں شہروں میں نے پانی کی آواز سنی انہوں نے غسل کر کے جلدی کپڑے پہننے اور دروازہ کھولتے ہی گلہ شہادت پڑھا۔ (مسلم)

(۱۶) جن دنوں رسول اللہ ﷺ فتح مکہ (رمضان ۸ھ) کے لئے پوشیدہ تیاریاں کر رہے تھے حضرت حاطب بن ابی بنتعہ نے بغرضِ اطلاعِ قریش ایک خط لکھا اور ایک عورت کی معرفت مکروہ نامہ کیا وہ خط راستے میں کپڑا گیا باوجود اسے عگین جرم کے آنحضرت ﷺ نے حضرت حاطب بن ابی بنتعہ کو معاف کر دیا اور اس عورت سے بھی کسی قسم کا تعزیز نہ کیا۔

(۱۷) ابوسفیان بن حرب جو اسلام لانے سے پہلے غزوہ احزاب میں رأس المشرکین تھے۔ غزوہ فتح میں مقامِ مرالظہران میں مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے حضرت عباس ان کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے آپ ابوسفیان سے مردوت سے پیش آئے اور وہ اسلام لائے۔

(۱۸) قریش آنحضرت ﷺ کو ندم کہہ کر کر گالیاں دیا کرتے تھے مگر آپ ﷺ فرمایا کرتے کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی دشام و لعنۃ کو کس طرح مجھ سے باز رکھتا ہے وہ ندم کہہ کر گالیاں دیتے اور لعنۃ کرتے ہیں حالانکہ محمد ہوں۔ (بخاری)

(۱۹) اعلانِ دعوت سے ساڑھے سترہ سال تک قریش نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب کو جواہر یتیں دیں ان کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں فتح کے دن وہی قریش مسجدِ حرام میں نہایت خوف و بیقراری کی حالت میں آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ ان اذیتوں کا ذکر تک زبانِ مبارک پر نہیں لاتے اور یہ حکم سناتے ہیں

اذہبو افانتم الطلقاء

جاؤ تم آزاد ہو

اس عالی حوصلگی کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی اس عفو عام کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگِ خین میں دو ہزار طلقاء لشکرِ اسلام میں شامل تھے۔

(۲۰) ہند بنت عقبہ (زوجہ ابوسفیان بن حرب) جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیچہ چبائی تھیں فتح مکہ کے دن نقاب پوش ہو کر ایمان لا کیں تا کہ آنحضرت ﷺ پہچان نہ لیں۔ بیعت کے موقع پر بھی گستاخی سے باز نہ رہیں ایمان لا کر نقاب اٹھا دیا اور کہنے لگیں کہ میں ہند بنت عقبہ ہوں مگر حضور اکرم ﷺ نے کسی امر کا ذکر تک نہ کیا یہ دیکھ کر ہند نے کہا یا رسول اللہ ﷺ روئے ز میں پر کوئی اہل خیمه میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمه سے زیادہ مبغوض نہ تھے لیکن آج میری نگاہ میں روئے ز میں پر کوئی اہل خیمه آپ کے اہل خیمه سے زیادہ محبوب نہیں رہے۔ (بخاری)

(۲۱) عکرمہ بن ابی جہل قرثی مخدومی اپنے باپ کی طرح رسول اللہ ﷺ کے سخت دشمن تھے فتح مکہ کے دن وہ بھاگ کر یہیں چلے گئے ان کی بیوی جو مسلمان ہو چکی تھی وہاں پہنچی اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ سب سے بڑھ کر صدرِ رحم اور احسان کرنے

والے ہیں غرض وہ عکر مہ کو بارگاہ رسالت میں لائی عکر مہ نے آپ کو سلام کہا۔ رسول اللہ ﷺ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور ایسی جلدی سے ان کی طرف بڑھے کہ چادر مبارک گر پڑی اور فرمایا
مرحبا بالراکب المهاجر۔ (الاصابہ)

فائدة

واقعہ کی مزید تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”شہد سے میٹھانا محمد“

(۲۲) صفوان بن امیہ جاہلیت میں اشرافِ قریش سے تھے اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ گئے تھے حضرت عمر بن وہب نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ صفوان میری قوم کے سردار ہیں وہ بھاگ گئے ہیں تا کہ اپنے آپ کو سندھ میں ڈال دیں۔ احمد اسود کو آپ نے امان دی ہے ان کو بھی امان دیجئے آپ نے فرمایا تو اپنے چچیرے بھائی کو لے آئے امان ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ امان کی کوئی نشانی چاہیے جو میں اسے دکھادوں آپ نے اپنا عمامہ جو فتح مکہ کے دن پہنچے ہوئے تھے عطا فرمایا۔ صفوان والپی کے لئے سوار ہونے کو تھے کہ حضرت عمر جا پہنچا اور ان کو مژده امان سنایا۔ صفوان نے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا حلم و کرم اس سے برتر ہے غرض صفوان حاضر خدمتِ اقدس ہوئے اور عرض کیا کہ یہ عمر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے آپ نے فرمایا عمر رج کہتا ہے یہ سن کر صفوان نے کہا یا رسول اللہ ﷺ دو ماہ کی مہلت دیجئے آپ نے فرمایا کہ تھے چار ماہ کی مہلت ہے۔
حضرت صفوان غزوہ طائف کے بعد بر غبت و رضا ایمان لائے۔ (سیرت حلیہ)

(۲۳) جب رسول اللہ ﷺ محاصرہ طائف (شوال ۸ھ) سے واپس آنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ثقیف پر بدعا فرمائیں مگر آپ نے یوں دعا فرمائیں

اللهم اهد ثقیفا
خدا یا ثقیف کو ہدایت دے

چنانچہ دعا قبول ہوئی اور ثقیف ۹ھ میں ایمان لائے۔

(۲۴) جب آنحضرت ﷺ نے ہمراں میں غنائم حین تقسیم فرمائے تو ایک منافق انصاری نے کہا کہ اس تقسیم سے رضاۓ خدا مطلوب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ خدا موی پر رحم کرے ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی لپس صبر کیا۔ (بخاری)

(۲۵) جب ابوالعاص بن رفیع نے آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ بھیجا تو راستے میں چند

غہرائے قریش نے مزاحمت کی ان میں سے ہمار بن اسود قریشی اسدی نے حضرت زینب کو اونٹ سے گردیا وہ حاملہ تھیں پھر پر گریں حمل ساقط ہو گیا اور ان کو خت چوٹ آئی اور اسی میں جاں بحق ہو گئیں۔ فتح مکہ کے دن ہمارند کو راجب القتل اشتہار یوں میں تھا وہ مکہ سے بھاگ گیا اور چاہتا تھا کہ ایران چلا جائے جب آنحضرت ﷺ جزا نہ سے واپس تشریف لائے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا یعنی اللہ ﷺ میں آپ کے ہاں سے بھاگ کر شہروں میں پھر تارہ میرا ارادہ تھا کہ ایران چلا جاؤں پھر مجھے آپ کی نفع رسانی، صلح رحمی اور غنو و کرم یاد آئے، مجھے اپنی خطاء و گناہ کا اعتراض ہے آپ درگز رفرما کیمیں یہ سن کر آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ (اصابہ)

(۲۶) کعب بن زہیر اور ان کے بھائی بحیر ا بر ق عزاب میں بکریاں چڑایا کرتے تھے بحیر نے کعب سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں اس مدینی نبوت کے پاس جاتا ہوں تاکہ دیکھوں وہ کیا کہتا ہے۔ بحیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ کا کلام سن کر مسلمان ہو گئے۔ کعب کو یہ خبر ملی تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی ہبجو اور اسلام کی توہین میں یہ اشعار بحیر کو لکھ دیئے

الا ابلغا عنى بحير ا رسالة فهل لک فيما قلت ويحك هل لک سقاک ابوبکر بکاس رویه فانہ لک
المامون منها وغلکا

آگاہ رہو میری طرف سے بحیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا تو نے دل سے گلہ شہادت پڑھ لیا ہے تجھ پر افسوس کیا تو نے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے ابو بکر نے تجھے سیراب کرنے والا پیالہ پلا دیا اور امین (حضرت محمد) نے تجھے اس پیالہ سے پہلی بار اور دوسری بار پلا دیا۔

ففارقہ اسباب الهدی واتبعة علی ای شئی ریب غیر ک دلکا علی خلق لم تلف اما ولا ابا
اس لئے تو اسباب ہدایت چھوڑ کر اس کا پیرو بن گیا اس نے تجھے کیا بتایا تو اوروں کی طرح ہلاک ہو گیا اس نے ایسا نہ ہب بتایا جس پر تو نے اپنے ماں باپ کو نہ پایا۔

عليه ولع تعرف عليه اخالکا فان انت لم تفعل فلست باسف
گر تو نے میرا کہانہ مانا تو میں تجھ پر تاسف نہ کروں گا۔

ولا قائل اما عشرت لعاً لسکا

اور تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے تو میں دعا نہ کروں گا کتو اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔

حضرت بحیر نے رسول ﷺ سے یہ ماجرا عرض کر دیا آپ نے عکب کا خون ہد ر فرمادیا۔ پھر حضرت بحیر نے کعب کو اطلاع دی اور ترغیب دی کہ حاضر خدمت اقدس ہو کر معافی مانگیں چنانچہ وہ ۹ھ میں غزوہ تبوک سے پہلے حاضر خدمت ہوئے آنحضرت ﷺ اس وقت مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کعب سے واقف نہ تھے کعب نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عرض کیا یا رسول اللہ کعب بن زہیر مسلمان ہو کر امان طلب کرتا ہے اجازت ہوتو میں اسے آپ کے پاس لے آؤ۔ آپ نے اجازت دی پھر کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ کعب میں ہی ہوں بعد ازاں اسلام لا کر انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا جس میں اشعار تو طیہ کے بعد یہ شعر ہے

انبیت ان رسول الله اوعدنی والغفو عند رسول الله مامون۔ (الاصابہ)

مجھے خبر دی گئی ہے کہ بارگاہ رسالت سے میری نسبت و عید قتل صادر ہوئی ہے حالانکہ رسول ﷺ سے عنوں کی امید کی جاتی ہے۔

فائدة

اس قصیدہ سے خوش ہو کر رسول ﷺ نے حضرت کعب کو چادر (مردہ) عطا فرمائی اور ان کی گذشتہ خطہ کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لائے۔

(۲۷) آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حشی جبشی غلام سفیان بن حرب جنگ احد کے بعد مکہ میں رہا کرتا تھا جب مکہ میں اسلام پھیلایا تو وہ بھاگ کر طائف چلا گیا پھر وفد طائف کے ساتھ مہر رمضان ۹ھ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایمان لایا آپ نے ان سے صرف اتنا فرمایا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا کرو۔ (بخاری)

فائدة

اس طرح کے بیشمار واقعات کتب سیر میں موجود ہیں۔

تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے
کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے

حل لغات

توقع، آس، بھروسہ، امید، خواہش۔ نظر، اس کے کئی معنی ہیں یہاں توجہ مہربانی مراد ہے۔

شرح

اے حبیب کبریٰ ﷺ آپ سے منہ چھپا کر کس کے سامنے منہ کروں کیا ہمارے لئے اور کوئی بھی ہے جس سے ہم مہربانی اور توجہ کی امید رکھیں۔

جاوں کہاں پکاروں کے کس کا منہ تکوں
کیا پرش اور جا بھی سگ بے ہنر کی ہے

شرح

اے حبیب خدا ﷺ آپ کے سوا کے پکاروں اور کہاں جاؤں کس کا منہ تکوں بھلا مجھ سگ بے ہنر کو اور کسی جگہ کوئی حال پوچھنے والا ہے۔

باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر
کیسی خرابی اس نگھرے در بدر کی ہے

حل لغات

نگھرا، نوڑا، نکما، بد نصیب، بے وارثہ۔

شرح

درحقیقت عطا و بخشش کا دروازہ تو ہے بھی یہی یعنی رسول اللہ ﷺ کا دراقدس ہی بخشش و عطاۓ الہی کا دروازہ ہے جو ادھر ادھر بہکا تو اس بد نصیب در بردھکے کھانے والے کے لئے بہت بڑی خرابی ہے۔

آباد ایک در ہے ترا اور تیرے سوا
جو بارگاہ دیکھنے غیرت کھنڈر کی ہے

حل لغات

کھنڈر، ٹوٹا ہوا، ویران، مکان، ویرانہ

شرح

کوئین میں صرف ایک ہی درگاہ آبادوہ ہے درگاہ حبیب خدا ﷺ اے حبیب پاک ﷺ آپ کی درگاہ کے سوا باقی جتنی درگاہیں ہیں وہ تمام ایک ویران کھنڈر کی غیرت بنی ہوئی ہیں یعنی آپ کی بارگاہ جیسی ان کی رونق اور آبادی

و شادابی نہیں۔

فائدة

اولیاء کرام کی بارگاہ ہیں بھی حضور ہی کی بارگاہ ہیں حضور ہی کی کفس برداری سے وہ اولیاء ہوئے اور واسطہ و سیلہ بنے حتیٰ کہ انہیاء بھی حضور اکرم ﷺ کے طفیل اور عطاۓ فیض ہیں حضور ہی کے نائب ہیں۔ (حاشیہ حداق)

لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں
کتنے مزے کی بھیک ترے پاک در کی ہے

حل لغات

وا، کھلا ہوا، کشادہ، پھیلا ہوا۔

شرح

سائقوں کے لب کھلے ہوئے اور آنکھیں بند ہیں اور جھولیاں پھیلی ہوتی اے کریم ﷺ آپ کے دراقدس کی بھیک کتنی مزے دار ہے کہ بھیک سے جی بھرتا ہی نہیں۔

گھیرا اندریوں نے دہائی ہے چاند کی
تھا ہوں کالی رات ہے منزل خطر کی ہے

حل لغات

دہائی، فریاد، نالش، بچاؤ، پناہ، قسم، واسطہ، خطر، ڈر، آفت، مشکل۔

شرح

اندریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے مدینہ کے چاند ﷺ کی پناہ ہے اس سے تمام تاریکیاں چھٹ جائیں گی اگرچہ تھا ہوں اور ررات کالی سیاہ ہے اور منزل بھی خوفناک ہے تو کیا ہوا جب مدینہ کے چاند کی پناہ نصیب ہے اب خطرہ کا ہے کا۔

قسم میں لاکھ بیج ہوں سوبل ہزار کج
یہ ساری گتھی اک تری سیدھی نظر کی ہے

حل لغات

بیچ، پیٹ، بل، کڑی، چکروغیرہ۔ گتھی، گرہ، الجھن۔

شرح

ہماری قسمت میں لاکھوں بیچ اور بے شمار بل اور ہزاروں ٹیز ہے پن ہوں لیکن اے جیب کبریا، شہ دوسرا ﷺ آپ کی ایک سیدھی نگاہ کرم سے تمام الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔

ایسے بندھے نصیب کھلے مشکلیں کھلیں
دونوں جہاں میں دھوم تمہاری کمر کی ہے

شرح

اے جیب کبریا ﷺ آپ کے نظام شفقت کا کیا کہنا کہ بہت سے لوگوں کے بندھے ہوئے نصیب کھل گئے اور بے شمار مشکلیں حل ہوئیں اور اے کریمہ ﷺ آپ کی کمزیتگی کی دھوم تو دونوں جہانوں میں ہے۔

جنت نہ دیں نہ دیں تری رویت ہو خیر سے
اس گل کے آگے کس کو ہوں برگ و بر کی ہے

حل لغات

رویت، دیدار۔ برگ، پتہ۔ بر، پھل۔

شرح

بظاہر ایک مکرانی کی صنعت ہے جنت سے گویا بے رغبتی ظاہر کی مگر اس شرط پر کہ حضور اکرم ﷺ کی رویت خیر سے ہو اور یقیناً معلوم ہے کہ جسے حضور کی رویت خیر سے ہوگی جنت اس کے قدموں سے لگی ہوئی ہے پھر محال ہے اسے جنت نہ دیں علاوه بر یہ عشق اپنے محبوب کے سوا گل و بلبل شہد و شتر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ (حاشیہ حدائق)

شربت نہ دیں نہ دیں تو کرے بات لطف سے
یہ شہد ہو تو پھر کے پرو شکر کی ہے

شرح

شربت نہ دیں کوئی پرواہ نہیں لیکن اتنا لطف و کرم ضرور ہو کہ میٹھے بول سنادیں جسے میٹھے بول کے شہد نصیب ہے تو پھر اسے کسی دوسری مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے۔

میں خانہ زاد کہنے ہوں صورت لکھی ہوتی
بندوں کنیروں میں مرے مادر پدر کی ہے

حل لغات

خانہزاد، گھر کا پیدا ہوا۔ کہن، قدیمی

شرح

یہ تیرا غلام تو آپ کا گویا خانہزاد ہے اور قدیم سے ہی دعویٰ غلامی رکھتا ہے بلکہ اس کے ماں باپ کے اسماء بھی آپ کے غلاموں و کنیروں کی فہرست میں مندرج ہیں۔

منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی
دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے

شرح

سائل کے ہاتھ اٹھتے ہی عطا کرنے والے داتا کی عطا ہو ہی گئی عرض و قبول کے درمیان بس ہاتھ بھر کا فاصلہ ہے۔
سکلی وہ دیکھے باڑ شفاعت کے دے ہوا
یہ آبرو رضاۓ دامنِ تر کی ہے

حل لغات

سکلی، جنون والا، خبطی، سودائی۔ دامنِ تر، کنایہ از گناہ بسیار۔

شرح

کسی کے دامن کو خٹک کرنے کے لئے ہوادیتے ہیں اور استعارہ ہے گناہ سے یعنی تیرے دامنِ تر کو ہوادینے کے لئے وہ دیکھے شفاعت کی شیم چلی تو پھر اب دختر کیسا۔

آخر مار قمه قلم

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

۲۲ ربیع الآخر ۱۴۲۶ھ